

عہد حاضر میں

اسلامی ریاست اور میڈیا

کے چند بنیادی مسائل

ڈاکٹر اسرا راحمد



مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور



عہدِ حاضر میں

اسلامی ریاست اور معیشت

کے چند بنیادی مسائل

ڈاکٹر اسرار احمد

امیر تنظیم اسلامی، وداعی تحریک خلافت پاکستان

نافعہ کرو

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36۔ کاؤنٹر ناؤن لاہور فون: 03-5019568

نام کتاب ————— عہد حاضر میں اسلامی ریاست اور معاشرت کے چند بنیادی مسائل
بار اول (اگست ۲۰۰۲ء) ۳۳۰۰
ناشر ————— ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
مقام اشاعت ————— ۳۶۔ کے ماذل ثاؤن لاہور
فون: ۳-۵۸۶۹۵۰۱
طبع ————— شرکت پرنگ پرنس لاہور
قیمت ————— ۳۰ روپے

ترتیب

- عرض ناشر
- | | | |
|----|---|----|
| ۲ | جدید اسلامی ریاست کے اجزاء ترکیبی | ﴿﴾ |
| ۵ | جدید اسلامی ریاست میں قومیت کا مسئلہ | ☆ |
| ۲۳ | اسلام اور سماجی انصاف | ﴿﴾ |
| ۳۳ | پاکستان میں سماجی انصاف کا اولین تقاضا: | ☆ |
| | ایک نیا اور منصفانہ بندوبست اراضی | |
| ۵۱ | مسئلہ ملکیت زمین | ﴿﴾ |
| ۶۰ | خلافت، ملوکیت اور جاگیرداری | ﴿﴾ |
| ۷۱ | اسلام کے دو معاشری نظام | ﴿﴾ |
| ۷۹ | اسلام کا قانونی نظام معيشت | ☆ |
| ۸۸ | سود اور جوئے کی حرمت کی حکمت | ☆ |

عرض ناشر

دور حاضر کی مثالی اسلامی ریاست کے حوالے سے بے شمار سوالات ذہنوں میں کلپلاتے ہیں۔ مثلاً عصر حاضر کی اسلامی ریاست کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہو گا، صدر یا امیر کا چناؤ کس طور پر ہو گا، سیاسی نظام صدارتی ہو گا یا پارلیمانی، فیڈرل ہو گا یا کفینڈرل۔ پھر یہ کہ نظام معیشت کے نمایاں خدو خال کیا ہوں گے۔ اسلام کا معاشی نظام سو شلزم سے زیادہ قریب ہے یا کپٹلزم سے مشابہ ہے وغیرہ۔ اس معاملے میں ہمارے علماء کرام اور سکالرز بالعلوم دو انتہاؤں پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ قدامت پسند علماء تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں تشكیل پانے والے عصر حاضر کے سیاسی نظام کو سراہر کفر سمجھتے ہوئے اسلام کے سیاسی نظام کے ساتھ اسے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کو گمراہی تصور کرتے ہیں جبکہ بعض ”روشن خیال“، دانشوروں کے نزد یک اسلام کا اپنا کوئی سیاسی نظام سرے سے موجود نہیں ہے لہذا عصر حاضر میں جو نظام مغرب نے ایک طویل ارتقائی عمل کے نتیجے میں تشكیل دیا ہے، اسے من و عن اسلامی ریاست میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ معاشی نظام کا بھی ہے۔

محترم ڈاکٹر اسرا رحم صاحب نے ان دو انتہاؤں کے ما بین ایک معتدل موقف اختیار کیا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کے نزد یک سیاسی نظام کے ضمن میں اسلام کے عطا کردہ اصول ہر اعتبار سے بالاتر ہوں گے تاہم ان اصولوں کے تابع رہتے ہوئے اسلامی ریاست کے سیاسی ڈھانچے کی تشكیل میں عصر حاضر کے موجود سیاسی نظام سے استفادہ کرنے میں ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ دین و شریعت کے مزاج سے یہ چیز زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے۔

اسلام کے معاشی نظام کے ضمن میں جہاں سودا اور جوئے کی حرمت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے وہاں اراضی کا منصافتانہ بندوبست اور جا گیرداری نظام کا خاتمہ بھی نہایت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ زیر نظر کتابچے میں شامل محترم ڈاکٹر صاحب کے مقالات و مضاہیں میں ان تمام اہم مباحث کا عمدگی سے احاطہ کیا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ وقت کے اہم ترین مسائل پر محترم ڈاکٹر صاحب کے خیالات و افکار پر مشتمل ان مضاہیں کو قارئین نہایت مفید پائیں گے۔

ناظم نشر و اشاعت

یکم اگسٹ ۲۰۰۲ء

جدید اسلامی ریاست کے اجزاء سے ترکیبی

جدید اسلامی ریاست کے اجزاء سے ترکیبی کیا ہیں اور اس کے نمایاں خدو خال کون کون سے ہیں، اس بارے میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بارہا اپنے خیالات کا اظہار فرمائے چکے ہیں، تحریری صورت میں بھی اور تقریری شکل میں بھی۔ لیکن یہ نومبر کے ”نوائے وقت“ کے ادارتی کالم میں اداریہ نگارنے پاکستان کے قیام ہی کو اسلامی ریاست کی تشكیل کے متادف قرار دیتے ہوئے محترم ڈاکٹر صاحب سے براہ راست یہ سوال کیا کہ اگر ان کے نزدیک پاکستان ابھی تک ”اسلامی ریاست“ نہیں بن سکا تو آخر اسلامی ریاست سے ان کی مراد کیا ہے؟ جدید اسلامی ریاست کی جو تعبیر ”نوائے وقت“ جیسے مؤقت روز نامے کے اداریہ نگارنے کی ہے اور نفاذ اسلام کا جو مفہوم میں کیا ہے وہ باعث حیرت ہی نہیں باعث افسوس بھی ہے..... قارئین کی دلچسپی کے لئے اس اداریے کا متعلقہ حصہ اور اس کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب کا وضاحتی مضمون جس کے ذریعے جدید اسلامی ریاست کے خدو خال اور اس کے اجزاء سے ترکیبی زیادہ تکھر کر سانے آتے ہیں، دونوں پیش خدمت ہیں۔ (ادارہ)

روزنامہ ”نوائے وقت“ کا نومبر ۱۹۹۳ء کا اداریہ تنظیم اسلامی کے امیر اور دائیٰ تحریک خلافت ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے خطبہ جمعہ کے دوران اس امر کا اعتراض کیا ہے کہ بلاشبہ مسلم لیگ ایک قومی جماعت ہی اور اس کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس کی جدوجہد سے پاکستان بنتا، لیکن یہ ملک ابھی تک اسلامی ریاست نہیں بن سکا، اس کے لئے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے لوگ پہلے خود اپنی زندگیوں پر اسلام نافذ کریں اور پھر ملک میں اسلام کا نفاذ کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی قوم یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ آخر اسلامی ریاست سے ان کی مراد کیا ہے اور اس وقت پچاس سے زائد ازاد مسلم ممالک میں سے کونسا ملک ایسا ہے جسے ڈاکٹر صاحب اسلامی ریاست کا ماذل قرار دے سکتے ہیں۔ شکر کی بات یہ

ہے کہ ڈاکٹر اسرا راحم نے یہ اعتراف کر لیا کہ مسلم لیگ نے ایک قومی جماعت کے طور پر تحریک پاکستان کو منطقی کامیابی سے ہمکنار کیا اور اپنے وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت وجود میں آئی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ملک میں اسلام کے نفاذ کے لئے ایک ایسی جماعت کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں جس کے ارکان پہلے اپنی زندگیوں پر اسلام نافذ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر وضاحت کر دیتے کہ آیا اس طرح کی جماعت سے ان کی مراد سابقہ جماعت اسلامی نہیں جس کے پلیٹ فارم سے خود انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کی تعریف و توصیف کے باوجود ڈاکٹر اسرا راحم کے لئے اس جماعت کو اسلامی کہنا مشکل ہو رہا ہے اور اس کا وعی مخصوص پس منظر ہے جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کی پوری قیادت اور بر صیر کی دیگر ذہنی شخصیات از "مولا نا آزاد" اور "مولانا حسین احمد ندی" نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کی خلافت کی تھی۔ ڈاکٹر اسرا راحم نے اپنی یہاں تک اصلاح کر لی ہے کہ "مولانا ندی" اور "مولانا آزاد" کے ایک مخصوص رنگ کی وجہ سے ان کے مذاہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے ان صاحبان کی تحدید و قویت کی کا گھر لی سی سوچ سے لائقی کا انتہا کیا ہے۔

ہم ڈاکٹر صاحب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تی نسل کے سامنے مولانا آزاد اور مولانا ندی کا وعی ایک روپ ہے جو ان کی کا گھر لیں کی غلامی اور کا گھر لیں ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تی نسل مولانا آزاد کا گھر لیں کے صدر اور بھارتی حکومت کے ایک وزیر اور منتری کی حیثیت سے بھیجنی ہے اور مولانا ندی نے جس طرح قویت کے ساتھ پر حضرت علامہ اقبال سے "متھا" لگایا اور جس طرح حضرت علامہ کو یہاں تک کہنا پڑا کہ "از د یونہ بندھسین احمد" ایں چہ یوں لجیس!۔ مولانا ندی انہیں پیغمبر کے پر چارک تھے جبکہ حضرت علامہ کافر مانا تھا کہ "خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہائی"۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ حضرت علامہ اور قائد اعظم کا نظریہ قویت علائے دین کی ایسی براثت کے مقابلے میں درست ثابت ہوا اور پاکستان کا مرض وجود میں آنے والی ایک اسلامی ریاست کی تکمیل کے مترادف ہے۔ یہاں ہم سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست کیسے کہہ دیا تو اس کا سادا اور عام فہم جواب یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمان ممالک نے اگر یہ فرانسیسی اور ولنڈریزی استعمار سے آزادی حاصل کی تو اس وقت تک دور حاضر کے تباہی سے بدل پچھے تھے۔ مسلمان ممالک گز شدہ ایک ڈیڑھ صدی سے غلامی کی زندگی بر کرتے رہے اور اس دوران میں ہماری سوچ جبود کا شکار رہی جبکہ اس عرصے میں دنیا میں تغیرات پیدا ہو پچھے تھے۔ آج نصف صدی بعد آزاد مسلمان

مالک کی تعداد بھی نصف صد سے تجاوز کر جگہ ہے لیکن آج تک دنیا نے انقلابات سے دوچار ہے اور وہ حاضر کے علوم و فن اور تمدنیب نے ایسا کمال حاصل کر لیا ہے کہ مسلمان ممالک کے لئے اس سے دوری بدستی اور پسمندگی میں اضافہ ہی کر سکتی ہے اور کروڑی ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے مسلمانوں کا ذہن بالکل واضح ہے اور عبادات اور اعتقادات سے روگروائی کو کوئی بھی جائز تصور نہیں کرتا لیکن دو رہاضر سے ہم آہنگی بھی لا بدی تصور کی جاتی ہے۔

اگر جماعت اسلامی کی دنیاوی حالت پر نظر ڈالی جائے تو پچھلے چار پانچ عشرہ میں ایک انقلاب آچکا ہے، آج جماعت کا ایکر کنڈی مشین ہیڈ کوارٹر جدید فن تعمیر کا منہ بولتا ہوتا ہے۔ خود اکٹھ صاحب کے ہیڈ کوارٹر میں کس شے کی کی ہے اس کے بعد آخر اسلام کے نفاذ میں کہاں کی دکھائی دیتی ہے۔ رہا موجودہ طرزِ سیاست تو ہرمہ ہی جماعت اور اس کے رہنمایان کرام سیاسی عمل کی بذعت میں شریک ہیں، صدارت سے لے کر سینٹ، قوی اسلوبی اور صوبائی اسلوبیک کے اختیارات میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ یہ صورت حال اجماع امت پر دلالت کرتی ہے کہ موجودہ انتخابی عمل میں حصہ لیتا کوئی غیر اسلامی یا قبیح فعل نہیں رہا۔ اختیارات کے ذریعے اسلامی ریاست کے عوام کا روپاً مملکت چلانے کے لئے ایک سیاسی مشینزی تکمیل دیتے ہیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کی پابند ہے۔ لیکن ایک ماڈرن اسلامی جمہوری غلاحی پارلیمانی ریاست کی تعریف ہو سکتی ہے اور اگرڈا اکٹھ اسرا راحم یا قبلہ جنگل حیدر گل کے ذہن میں اسلامی ریاست کا کوئی دوسرا تصور ہو یا اٹھ و نیشاٹ لائیا سے لے کر عرب امارات، سعودی عرب، مصر، شام، سمن، اردن، مرکش، تونس، ترکی، لیبیا، تانیجریا، تکن کی بھی ملک کو اسلامی ریاست کا ماذل بھجتے ہوں تو وہ اس کی نشاندہی فرمادیں تاکہ قوم کے ذہن سے کنفیوژن دور ہو سکے۔

مدیر نوائے وقت کی ادارتی تحریر کے جواب میں اصل موضوع یعنی جدید اسلامی ریاست کے دستوری خاکے سے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل تین تہمیدی باتیں عرض کرنا ضروری ہیں۔

پہلی یہ کہ اگر بقول ان کے ”پاکستان کا وجود میں آجانا ہی ایک اسلامی ریاست کی تکمیل کے مترادف ہے“ تو پاکستان سے کہیں زیادہ بھاری مسلم اکثریت والے بیسیوں ملک جو اس سے قبل دنیا کے نقشے پر موجود تھے کس بناء پر ”اسلامی ریاست“ کی

تعریف سے خارج کئے جاسکتے ہیں؟ اور اگر آج جو نصف صد سے بھی زائد مسلمان ملک دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے تیرہ کے نام تو خود انہوں نے بھی گنوادیے ہیں، سب کے سب اسلامی ریاست قرار پاسکتے ہیں تو کیا اس کا منطقی نتیجہ یہ نہیں ہو گا کہ اع”شد پریشاں خوابِ من از کثرت تعبیر ہا!“ کے مطابق تسلیم کر لیا جائے کہ اسلامی ریاست کسی حقیقت واقعی کا نام ہے ہی نہیں!..... گویا ع”کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا!“..... اور ع”ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں!“۔

دوسری بات یہ کہ آج مسلمان تعداد میں سوا ارب سے زائد ہونے کے باوجود عالمی سلطنت پر ذلت اور مسکنست سے دو چار اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار اس بنابر ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جسے اسلامی ریاست، معاشرت اور میہشت کا ”ماڈل“، قرار دیا جاسکے۔ چنانچہ ہم میہشتِ جمیع اور بحیثیت امت مسلمہ اپنے فرضِ منصبی سے کوتاہی کے مرتبہ ہو رہے ہیں، اور اپنے عمل کے ذریعے و“دے تو بھی محمدؐ کی صداقت کی گواہی!“ پر عمل پیرا ہونے اور اس طرح ”شہادت علی الناس“ کافر یہدا کرنے کی بجائے ”کہتاں حق“، یعنی حق کو چھپالینے کے جرمِ عظیم کے مرتبہ ہو رہے ہیں۔ اور

”خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بد لئے کا!“

کے مصادق مسلمانوں کی موجودہ زیوں حالی کا کوئی علاج اس کے سوا موجود نہیں کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں یعنی کم از کم ایک ملک میں اسلامی ریاست کا صحیح ”ماڈل“ پیش کر دیا جائے۔ تا کہ نوع انسانی دینِ حق کی برکتوں کا مشاہدہ ہشم سر سے کر سکے اور اس طرح اس پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی جانب سے اتمامِ جدت ہو جائے۔

تیسرا بات یہ کہ فی الواقع اس مقصدِ عظیم کی خاطر پاکستان قائم ہوا ہے اور ان شاء اللہ العزیز ایک صحیح اسلامی ریاست کا ”ماڈل“ بننے کی سعادت اسی سرزی میں کو حاصل ہو گی۔ چنانچہ میہشت ایزدی اور حکمت خداوندی اور گزشتہ چار سو سال کی تاریخ

سے قطع نظر، یہی بات جو مصور و مفکر پاکستان علامہ اقبال نے اپنے ۱۹۳۰ء کے خطبہ اللہ آباد میں ارشاد فرمائی تھی..... یعنی:

”میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلم

ریاست کا قائم تقدیر اللہی ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ

اسلام کی اصل تعلیمات کے چہرہ روش پر جو پردے عرب طوکیت کے دور میں

پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی ایک جھلک نوع انسانی کو دکھائیں!“

اور یہی بات بانی و معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمائی تھی کہ:

”ہم پاکستان اس لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عبید حاضر میں اسلام کے

اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک تکمیلی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں!“

یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ اس وقت کے حالات میں حصول پاکستان کے لئے تحریک لا محالہ ”تو می“ بنیادوں پر ہی چلائی جا سکتی تھی الہذا ہر وہ شخص شریک اور شامل کر لیا گیا جو مسلمانوں کا ساتھ رکھتا ہو خواہ اس کا عمل اور کردار کیا ہی ہو۔ الہذا قیام پاکستان کے بعد خود قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ میری جیب میں سوائے کھوئے سکوں کے اور کچھ نہیں ہے! الغرض قیام پاکستان کو اگرچہ یقیناً اسلامیان ہند کی بہت بڑی کامیابی اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فضل و کرم کے مظہر ہونے کی حیثیت حاصل ہے، تاہم یہ ہمارے سفر کی صرف پہلی منزل ہے۔ اور ع ”وقت فرست ہے کہاں کام ابھی باقی ہے؟“ کے مصدق اس فر کا اصل اور زیادہ کھن مرحلہ ابھی سر کرنا ہے۔ اور اس کے لئے اگرچہ اصل ضرورت تو ایک ایسی جماعت کی ہے جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو ادا خود اپنی ذات اور دائرہ اختیار میں اسلام کو بالفعل نافذ کریں اور پھر نظام باطل کو بدلنے کے لئے نہ صرف یہ کہ تن من دھن وقف کر دیں، بلکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک مضبوط اور منظم جماعت کی صورت اختیار کر کے بالفعل ”حزب اللہ“ بن جائیں، تاہم اس کی پہلی اور کم از کم، اور قطعاً ناگزیر اور لازمی ولا بدی شرط یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھو اور مان لیا جائے کہ ع ”عشق تابہ صبوری ہزار فرنگ است!“ کے مصدق موجودہ جملہ مسلمان ممالک اور ایک ”حقیقی اسلامی ریاست“ میں زین اور آسان کا فرق ہے!

اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ ”جدید اسلامی ریاست“ کے عنوان سے از خود ظاہر ہے کہ ہماری مطلوب و مقصود اور زیر بحث و نظر ریاست میں دو اوصاف لازماً ہونے چاہئیں، یعنی ایک اسلام اور دوسرا جدید یت! تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، ہر شخص خواہ وہ خود بالفعل اسلام پر عمل ہیزا ہو یا نہ ہو؛ جانتا ہے کہ اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بے چون وچہ افرمانبرداری اور بلا استثناء اطاعت کا! لہذا اس کے بارے میں کسی مزید بحث و گفتگو اور قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے!

البتہ ”جدید یت“ سے مراد کیا ہے؟ اور اس کے کون سے اجزاء ہمارے لئے قابل قبول ہیں اور کون سے نہیں؟ اس معاملے کی اچھی طرح تحقیق و تفییش اور بحث و تجھیس ضروری ہے۔ اس لئے کہ اصل ”کتفیوڑن“، اسی معاملے میں پایا جاتا ہے۔ اور اگرچہ علامہ اقبال نے اصولی اعتبار سے تو بالکل بجا طور پر فرمایا ہے کہ۔

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کم نظری قصہ قدیم د جدید!

تاہم واقعہ یہ ہے کہ یہ اصول صدقی صدیا تو صرف فردا اور اس کی نفیات پر منطبق ہوتا ہے یا عمرانیات و اجتماعیات انسانی کی صرف اولین اور اہم ترین منزل یعنی نظامِ معاشرت اور عائلی قوانین پر، جنہیں شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے ”تمیر منزل“ سے تعمیر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں صرف اصول و مقاصد ہی نہیں تفصیلی قوانین بھی پورے شرح و بسط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدی و سرمدی کلام میں یا ان فرمادیئے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے نظریہ ششم میں بجا طور پر فرمایا ہے کہ مغرب سے مرعوب جدید زہن ان کے ظاہری خدو خال میں الجھ کر رہ گیا ہے اور ان کی تہہ میں کار فرما حکموں تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ بہر حال اس کے بالکل بر عکس معاملہ ہے سیاست و ریاست کا، کہ ان کے ضمن میں کتاب و سنت میں صرف اصولیہ بیانات پر اکتفا کی گئی۔ اور کوئی تفصیلی خاکہ یا ذھانچے نہیں دیا گیا۔ اس لئے کہ اس میدان میں نوع انسانی کے عمرانی ارتقاء کا سفر ابھی جاری تھا۔ چنانچہ نزول قرآن کے وقت ہی نہیں؛

اس کے ایک ہزار سال بعد تک بھی ذہن انسانی پر یہ حقیقت مکشف نہیں ہو سکی کہ ”ریاست“ اور ”حکومت“ دو جدا چیزیں ہیں۔ اور حکومت کی حیثیت ریاست کے صرف انتظامی ادارے کی ہے اور شہریوں کی اصل وفاداری ریاست سے ہوتی ہے نہ کہ حکومت سے! اور حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا تو شہریوں کا بغاہی حق ہے۔ چنانچہ یہ اسی کا شاخصانہ تھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہماً، اگرچہ صرف حکومت کی اصلاح (یا تبدیلی) کے لئے اٹھے تھے لیکن ”حکومت وقت“ کے لئے انہیں ”باغی“، قرار دینا آسان ہو گیا۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ اسلامی ریاست کے خلاف علم بلند نہیں کیا تھا!

الفرض، سیاست اور ریاست کے میدان میں دو خاقانِ کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہ اس معاطلے میں ہمیں کتاب و سنت سے صرف اصول لینے ہوں گے اور ان کے ساتھ عمرانی ارتقاء کے ثمرات میں سے جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہوں انہیں لازماً شامل کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا، اور قدرے تلخ حقیقت یہ کہ اس عمرانی ارتقاء میں ہم مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کل کا کل مغرب اور زیادہ معین طور پر یورپ میں ہوا ہے، تاہم یہ بات واضح طور پر سمجھ لئی چاہئے کہ یہ نوع انسانی کی مشترک متاع ہے، اور جس طرح ہم سائنس اور نیکنا لوجی کے میدانوں میں مغرب کی دریافتیں اور ایجادوں سے بھر پور طور پر مستفید ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اس کی عمرانی ترقی اور اس میدان میں ان کی ”یافت“ کے بارے میں بھی زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ یہ فرق بہر حال ملحوظ رہے گا کہ طبعی سائنس پر مبنی نیکنا لوجی کل کی کل ”مباحثات“ میں شامل ہے (صرف اس کا غلط استعمال معصیت کا ذریعہ بن سکتا ہے)۔ جبکہ عمرانی ارتقاء کے ثمرات کے ضمن میں ہمیں صحیح و غلط اور حلال و حرام کے ما میں امتیاز بہر صورت کرنا ہو گا۔

(یہاں صرف برسمیل مذکورہ یہ اشارہ مناسب ہے کہ معاشریات اور اقتصادیات کا معاملہ ایک جانب معاشرت اور عائلی قوانین اور دوسری جانب سیاست و ریاست کے

بین بین واقع ہوا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ اس کے ضمن میں قرآن حکیم نے جہاں اصول و مقاصد بھی واضح کر دیے ہیں، وہاں بعض مھین احکام بھی دے دیئے ہیں، اگر چاہتے تفصیلی نہیں جتنے معاشرت اور ”تدبیر منزل“ کے ضمن میں!

اس تمهید کے بعد آئیے اب دیکھیں کہ تصور ریاست و سیاست کے ضمن میں ”جدیدیت“ کن عناصر سے مرکب ہے۔ مختصر ترین اور سادہ ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ”یہ چار عناصر ہوں تو بتا ہے مسلمان“ کے صدقاق ”جدیدیت“ بھی چار عناصر سے مرکب ہے، جن میں سے دو تو اسلام کی اساسی تعلیمات کے قطعاً منانی ہیں جن کا ترک واجب ہے، بقیہ دو میں سے بھی ایک وہ ہے جو تھا ہی اصلاً اسلام کی دین اور عطا، یہ دوسری بات ہے کہ مسلمانوں نے بہت جلد اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیا تھا۔ البتہ دوسری (اور کل تعداد کے اعتبار سے چوتھی) چیز وہ ہے جو کل کی کل مغرب کی ”یافت“ ہے جسے ہمیں اس کے شکریے کے ساتھ قبول کر لینا چاہئے اور زیادہ گھرماں میں اتر کر دیکھا جائے تو وہ ہے بھی خالص عینیکی نوعیت کی ہے!

چنانچہ وہ دو عنابر جو دور حاضر کی ریاست اور سیاست کی روگ و پے میں زبردہ الہام کی طرح سراہیت کئے ہوئے ہیں اور جن کی اسلام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کی اساسی تعلیمات کی عین ”ضد“ اور کلی فنی کی حیثیت رکھتے ہیں، سیکولرزم اور نیشنلزم ہیں۔ اور ہم مسلمانان بر عظیم پاک و ہند پر علامہ اقبال کے فکر اور فلسفہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی فضل و کرم ہوا ہے، اس کے باعث ہم پران دنوں نظریات کا نوع انسانی کے حق میں زبردہ الہام کی طرح مہلک اور اسلام کی اساسی تعلیمات کی عین ضد ہونا اتنا واضح اور مبرہن ہے کہ ان پر کسی گفتگو کی نہ صرف یہ کہ کوئی حاجت محسوس نہیں ہوتی بلکہ یہ قرطاس و قلم اور وقت و وقت کا خالص ضایع نظر آتا ہے۔ تاہم صرف ضایع طبع کے لئے سیکولرزم کی فنی کے لئے علامہ اقبال کے دو اشعار پیش خدمت ہیں جو اس مخدانہ اور مشرکانہ تصور کے خلاف سیف قاطع اکی حیثیت رکھتے ہیں۔.....یعنی۔

ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی
ہوس کی امیری ، ہوس کی وزیری!

اور

جلالی پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو
جدا ہودیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی
رہا نیشنلزم یعنی ”وطنی قومیت“ کا نظریہ تو اس پر تو ان کی مکمل نظم نہ صرف یہ کہ ”ضرب
حیدری“ کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ ایک جانب غالب کے اس مصروع کی صداقت کا مل
ہے کہ عرض کجھ جو ہر اندیشہ کی گرمی کہاں!“ تو دوسری جانب غالب کے بارے
میں حضرت علامہ کے اپنے شعر یعنی

”فکرِ انساں پر تری ہستی سے یہ روشن ہوا
ہے پر مرغِ تخیل کی رسائی تا کجا!“
کی صداقت اتم ہے۔ مزید برآں حضرت علامہ کی یہ نظم اس اعتبار سے بھی ”جو مع الكلم“
کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں آغاز میں گفتگو خالص دینی اور اسلامی اعتبار سے ہوئی
ہے۔ چنانچہ وطنی قومیت کے نظریے کو عہد حاضر کے عظیم ترین ”شک“ سے تعبیر کیا گیا
ہے۔ اس لئے کہ اس کے زیر اثر وطن ایک ”معبود“ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، محوائے

ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیر نکن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے!

اور اختتام پر گفتگو خالص انسانی سلط پر ہوئی ہے، یعنی

اقوامِ جہاں میں ہے رقبت تو اسی سے
تخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے

اور

خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے!

اور آخری شعر میں ان دونوں کو جمع کر لیا گیا ہے..... یعنی۔

اقوام میں مخلوقِ خدا بنتی ہے اس سے

تو میتِ اسلام کی جڑ کلتی ہے اس سے!

الغرض، ہمیں جدید تصورِ ریاست کے ان دو عناصر کو تو ”جدید اسلامی ریاست“ کے تصور سے لازماً اور قطعی طور پر خارج کرنا ہو گا ہی، ان کے متعلقی و اوزم اور مضمونات کی بھی کامل بخوبی کرنی کرنی ہو گی۔

جدید تصورِ ریاست کا وہ عصرِ جو حدیث نبوی: ”الْحُكْمَةُ ضَلَالُ الْمُؤْمِنِ“ کے مطابق مؤمن کی گشادہ متاع کی حیثیت رکھتا ہے اس کا ”ری پبلکن“ مزاج ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اپنے ان دو اشعار میں بھی جوفصاحت و بلاغت کی انتہائی بلند یوں کوچھور ہے ہیں سب سے زیادہ اشارہ اسی حقیقت کی جانب کیا ہے کہ۔

ہر کجا بینی جہان رنگ و بو

آنکہ از خاکش بروید آرزو

یا زورِ مصطفیٰ او را بہاست

یا ہوز اندر تلاشِ مصطفیٰ ست!

(فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم!)

اور اپنے مشہور خطبات میں انہوں نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ:

”ری پبلکن طرزِ حکومت نہ صرف یہ کہ اسلام کی روح کے ساتھ کامل مطابقت

رکھتا ہے بلکہ عالم اسلام میں جوئے عوامل بر سر کار ہو چکے ہیں ان کے پیش نظر

ناگزیر بھی ہے۔“ (خطبہ ششم)

اور اس کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت درکار ہے کہ خلافتِ راشدہ کا نظام نہ طوکیت اور شہنشاہیت پر مبنی تھا، نہ برہمیت اور پاپائیت پر۔ بلکہ الفاظ قرآنی ”أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهُمْ“ کے مطابق اس کے جملہ معاملات مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے ہوتے تھے۔ تبی وجہ ہے کہ گاندھی ایسے ہندو مہاتما کو بھی ۱۹۴۷ء میں جب پہلی بار ہندوستان میں صوبائی وزارتیں قائم ہوئیں تو کاغذی وزراء کے سامنے قابل تقلید

مثالوں کی حیثیت سے صرف ابو بکرؓ اور عمرؓ کا نام لیتے ہیں۔ اس لئے کہ قدیم ہند کی تاریخ میں بکر ماجیت ہوں یا اشوك، اور چندر گپت ہوں یا کنشک، ان کی انفرادی سیرت و کردار سے قطع نظر، ان کا نظام بہر حال ملوکیت اور شہنشاہیت پر منحصر! الہذا انہیں آج کے دور میں قابل تقلید مثالوں کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاسکتا! — تاہم اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ خلافتِ راشدہ کے خاتمے کے بعد عالمِ اسلام میں تو رفتہ رفتہ ملوکیت نے جڑیں پکڑ لیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں تو بقول جناب نعیم صدیقیؓ ”پھر تخت پہنچے، ایوان بجے، والا معاملہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا، البتہ غربناطہ اور قرطبوہ کی یونینورسٹیوں سے حریت فکر اور علم و حکمت کے جو سوتے و سٹلی یورپ کے ممالک تک پہنچے جن کے زیر اثر وہاں ایک جانب احیاء العلوم اور دوسرا جانب اصلاحِ مذہب کی تحریکیں برپا ہوئیں، ان ہی کے ایک منطقی نتیجے کے طور پر بالآخر انقلاب فرانس کا ظہور ہوا اور دنیا میں دوبارہ ری پبلکن طرز حکومت کا آغاز ہوا۔ بہر حال جدید تصور ریاست کا یہ عصر ہم مسلمانوں کے لئے اپنی ”گمشدہ متاع“ کی حیثیت رکھتا ہے، الہذا حدیث نبویؐ کے الفاظ کے مطابق اس پر تو ہمارا ”حق“ دوسروں سے فائق ہے۔

البتہ آخری چیز جو گل کی گل مغرب کی ”یافت“ کی حیثیت رکھتی ہے اور جس پر ہمیں انگریزی زبان کی ضرب المثل ”شیطان کو بھی اس کا جائز حق ضرور دیا جانا چاہئے!“ کے مطابق مغرب کا ممنون ہونا چاہئے، اور جسے ان کے شکریے کے ساتھ قبول کر لیتا ہمارے اپنے حق میں مفید اور خواہ مخواہ رد کر دینا ہمارے اپنے لئے ہی مضر ہے، وہ ہے ایک جمہوری ریاست اور ری پبلکن طرز حکومت کے تین اعضائے ریکسے یعنی مقننه، انتظامیہ اور عدالیہ کی تعین، پھر ان کے جدا گانہ و ظالائف و فرائض کا تعین اور سب سے بڑھ کر ان کے مابین اختیارات کے ضمن میں تحدیدات اور توازن کا نظام۔ اور ”آخری لیکن کمترین نہیں“ کے مصدق اس مخصوص نظامِ ریاست و حکومت کے لئے اساسی اداروں کی تشكیل، جیسے سیاسی جماعتوں اور انتخابات کا نظام، اور پرلس اور اس کا مناسب اخلاقی حدود کے اندر تقيید کا حق وغیرہ! یہ تمام چیزیں، جیسے کہ پہلے عرض کیا

جا چکا ہے، درحقیقت ایک نوع کی "میکنا لو جی" ہی ہے۔ اسی لئے انہیں مجموعی طور پر "شیٹ کرافٹ" سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں وہی اصول درست ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، یعنی یہ کہ جو چیز کتاب و سنت کے بالکل منافی ہو رہ کر دی جائے، باقی کو اسلام کے اصولوں کے ساتھ شامل کر کے "جدید اسلامی ریاست" کا ڈھانچہ تیار کیا جائے۔

اس سلسلے میں جو کچھ اب تک بیان ہو چکا اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ —

چونکہ:

۱) اسلام نے ریاست کے ضمن میں صرف اصول دیے ہیں، تفصیلی خاکہ یا ڈھانچہ کوئی نہیں دیا۔

۲) ری پبلکن طرز حکومت نہ صرف اسلام کی روح کے عین مطابق ہے، بلکہ اصلاً اسی کا عطا کر رہا ہے۔

۳) جدید ریاست کے اعضاً رئیسہ (مفہمن، انتظامیہ اور عدالیہ) کے وظائف و فرائض، ان کے مابین حقوق و اختیارات کی تقسیم اور توازن کا نظام اور مختلف جمہوری اداروں کی تشکیل، یعنی فی الجملہ "شیٹ کرافٹ" ایک نوع کی میکنا لو جی ہے جو اکثر "بیشتر" مباحث کے درجہ میں ہے۔

لہذا اگر عہد حاضر کی جمہوری ریاست کے قصورات میں صرف دو تبدیلیاں کر دی جائیں تو وہ "جدید اسلامی ریاست" کی صورت اختیار کر لے گی۔ پہلی تبدیلی یہ کہ سیکولرزم کے تصور کو نکال دیا جائے اور اسلام کو صرف "سرکاری نمہہب" کے طور پر نہیں بلکہ دین اور دنیا اور نمہہب و ریاست کی جامع حقیقت کی حیثیت سے پورے نظام زندگی پر غالب و نافذ قرار دیا جائے اور دوسرا تبدیلی یہ کہ "وطنی قومیت" کی بجائے "مسلم قومیت" کو بطور اساس قبول کیا جائے۔

اس کے عملی نتیجے کو سادہ ترین الفاظ میں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ — عہد حاضر کے کسی بھی جمہوری نظام حکومت میں، "خواہ وہ پاری یہاں ہو، خواہ صدارتی" اور "خواہ

وحدانی ہو خواہ وفاتی، اگر تین چیزیں شامل کر لی جائیں، جو باہم لازم و ملزم اور ایک دوسرے کے مطلق نتیجے کی حیثیت رکھتی ہیں تو وہ اسلامی ریاست بن جائے گی۔ یعنی:
 ۱) اولاً یہ تسلیم کیا جائے کہ یہاں حاکیت اصل اللہ کی ہے اور انسان کے پاس صرف ”خلافت“ ہے۔

۲) دوسرے یہ کہ یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کو ہر چیز پر بالاتری اور بالادستی حاصل ہو گئی اور کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جاسکے گا۔ اور ۳) تیسرا یہ کہ اگرچہ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور عقیدے، عبادات اور پرنسل لاء کی آزادی کی ضمانت کے حق میں بلا محاظہ رنگ نسل اور بلا انتیاز عقیدہ و مسلک تمام شہری برابر کے شریک ہوں گے، لیکن قانون سازی کے عمل اور ریاست کی بلند ترین پالیسی کی تعین و تکمیل میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکیں گے جو اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں۔

اب اگر ان تینوں اعتبارات سے وطن عزیز پاکستان کے معروضی حالات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل صورت سامنے آتی ہے:

۱) چونکہ پاکستان ایک ایسی زبردست عوامی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوا تھا جس کی بنیاد ”مسلم قومیت“ کے اصول اور نظریے پر تھی، لہذا جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے وہ تو یہاں بہت جلد اور بہت آسانی سے طے ہو گئی تھی۔ چنانچہ ”قرارداد مقاصد“ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ وضاحت کردی گئی تھی کہ اہلیان پاکستان کے پاس جو بھی اختیار و اقتدار ہے وہ حاکم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ”قدس امانت“ کی حیثیت رکھتا ہے اور صرف ان حدود کے اندر اندر استعمال ہو گا جو اس اصل حاکم نے معین کر دی ہیں۔ مزید برآں یہاں جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور سماجی عدل کے وہ تصورات اور معیارات نافذ کئے جائیں گے جو اسلام نے معین کئے ہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اس اعتراف اور اعلان نے ریاست پاکستان کی اساسی نوعیت اور آئندہ بننے والے مفصل دستور کے خدوخال کو واضح طور پر

متعین کر دیا تھا۔ اور بیسویں صدی عیسوی کے وسط میں جبکہ پورے عالم انسانی پر مادیت، الحاد اور سیکولرزم کا فیصلہ کن غلبہ تھا دس کروڑ سے زائد انسانوں کی نمائندگی دستور ساز اسلامی کی جانب سے یہ اعلان اور اظہار ۔۔۔۔۔ ”کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں!“ کے مصدقہ ہرگز کسی ”مجزعے“ سے کہنیں تھا۔

لیکن چونکہ اس قرارداد کی حیثیت صرف ”مقدمہ دستور“ کی رہی، جس کی بنیاد پر کسی عدالت میں کوئی م Rafعہ دائر نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا یہ عملی طور پر بالکل غیر مؤثر رہی اور سرخوم صدر ضیاء الحق نے ۱۹۸۵ء میں اسے دفعہ ۲۔ الف کے طور پر ”جزء دستور“ بنایا بھی تو ایسے نیم دلائے اور سطحی انداز میں کہ دستور کی دیگر مختلف دفعات میں جو چیزیں کسی اعتبار سے اس سے مختلف یا متصادم موجود تھیں بھی برقرار رکھا اور خارج یا ساقط نہیں کیا۔ لہذا اس سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں شدید ابہام بلکہ متصادم پیدا ہوا کہ کسی صوبائی عدالت عالیہ نے اس دفعہ ۲۔ الف کو دوسری دفعات کی ”ناخ“ مان کر اس کے مطابق کوئی فیصلہ صادر کر دیا تو پسروں کو رٹ نے دستور پاکستان ہی کی کسی دوسری دفعہ کے حوالے سے اسے کا لعدم قرار دے دیا۔

بہر حال اب اگر ہمیں فی الواقع خلوص قلب اور عزم معمم کے ساتھ پاکستان کو حقیقی اسلامی ریاست بنانا ہے تو لازم ہے کہ اس قرارداد کو دستور کی دفعہ ۲۔ الف نہیں بلکہ اصل دفعہ ۲ قرار دیا جائے اور اصل دفعہ کے موجود القاطع یعنی ”پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا“ کو یا تو سرے سے حذف کر دیا جائے۔ اس لئے کہ یہ سیکولرزم کے نظریہ ریاست کے تحت مذہب کے محدود تصور کی غمازی کرتے ہیں یا انہیں قرار داؤ مقاصد کی توضیح مزید کے طور پر مزید دلیل دفعہ ۲۔ الف کی حیثیت دی جائے۔

(۲) بالکل بھی معاملہ قرآن و سنت کی کامل بالادستی کے ضمن میں ہوا۔ یعنی یہ کہ اگرچہ یہ دفعہ پاکستان کے ہر دستوری مسودے میں شامل رہی کہ: ”یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جاسکتی“، لیکن یہ بھی ایک ٹویلی عرصے تک تو صرف ”رہنماء اصولوں“ کے ذریعے میں شامل اور اس لئے عملاً غیر مؤثر رہی۔ اور

جزل خیاء الحق صاحب کے دور میں اس پر کسی قدر عملی پیش رفت کا آغاز ہوا بھی تو ایسے نہیں دلانہ سے بھی کم تر انداز میں اور اتنی اگر مگر کے ساتھ کہ پورا معاملہ ایک لا حاصل مشق (Exercise in futility) ہی نہیں باقاعدہ بھیل تماشے کی صورت اختیار کر گیا۔ تاہم چونکہ یہ معاملہ ”اللہ کی تشریعی حاکیت“ کے بالفعل نہاد کی واحد عملی صورت کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اس کے گھرے تجزیے اور اس کے صحیح اور غلط اجزاء کی واضح نشان دہی کی شدید ضرورت ہے۔

اس سلسلے کی پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا جو عملی راستہ اختیار کیا گیا وہ اصولی طور پر بالکل درست تھا۔ یعنی یہ کہ اس امر کا فیصلہ کہ آیا کوئی راجح الوقت قاعدہ اور قانون یا زیر تجویز مسودہ قانون، کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت سے متصادم یا ان کی حدود سے متجاوز ہے یا نہیں اعلیٰ عدالتوں ہی کو کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ جدید تصور ریاست کے مطابق دستورِ مملکت کی پاسداری اور اس کے مطابق انتظامیہ اور متفقہ کی نگرانی اعلیٰ عدالتوں ہی کا فریضہ اور وظیفہ ہے۔ یعنی جس طرح دستور میں طے شدہ بنیادی حقوقی شہریت پر انتظامیہ یا متفقہ کی دست درازی پر ہر شہری کو حق حاصل ہوتا ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے دروازے پر دستک دے اسی طرح اگر کسی ریاست کے دستور میں یہ طے کر دیا گیا ہو کہ یہاں قرآن اور سیدھے رسول ﷺ کو مطلق بالادستی حاصل رہے گی اور کوئی قاعدہ یا قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا تو اگر کسی شہری کا یہ خیال ہو کہ کسی معاطلے میں اس اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اسے حق حاصل ہونا چاہئے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں سے چارہ جوئی کر سکے۔ اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہئے کہ وہ اس کے ضمن میں نہیا یا اثباتاً فیصلہ صادر کر سکے اور اگر اس کی رائے میں کوئی قانون جزوی یا کلی طور پر اس دفعہ کی زد میں آتا ہو تو اسے کالعدم قرار دے سکے۔ اگرچہ اس طرح جو خلاپیدا ہو گا اسے پر کرنے اور کالعدم قرار پانے والے قانون کی جگہ تبادل قانون سازی کا اختیار بہر صورت متفقہ ہی کو حاصل رہے گا جس کے لئے اسے معین مہلت دی جاسکتی ہے بلکہ دی جانی چاہئے۔

اس مشکل مرحلے کے اس واحد ممکن العمل حل کے علاوہ جتنی دوسری صورتیں آج تک تجویز کی گئی ہیں وہ یارویح دین سے متصادم ہیں یا روحِ عصر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں۔ مثلاً سب سے پہلی تجویز جو خود بخوبی ہن میں آتی ہے متفہنے کے ساتھ ایک ”علماء بورڈ“ کی ہے۔ چنانچہ پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ کے دوران بھی سب سے پہلے اسی تجویز کو اختیار کیا گیا تھا، جس نے بعد میں ذرا سے فرق کے ساتھ ”اسلامی نظریاتی کونسل“ کی صورت اختیار کی۔ لیکن اس کے ضمن میں فوری طور پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس بورڈ یا کونسل کا فیصلہ آخری اور حصی ہو گا یا اس کی حیثیت مخفی ”سفارش“ کی ہوگی۔ پہلی صورت اختیار کی جائے تو یہ ”تھیا کریں“ بن جاتی ہے جو رویح عصر سے بھی براؤ راست متصادم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دوسری صورت میں اگر آخری فیصلہ کا دار و مدار منتخب نمائندوں کی عددی اکثریت ہی پر رہتا ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ ”حاکمیتِ عوام“ کا وہ سیکولر تصور ہے جو اللہ کی حاکمیت سے متصادم ہے بلکہ اس صورت میں بورڈ یا کونسل کی حیثیت عفو معطل کی کی ہو جاتی ہے۔ (جیسا کہ فی الواقع ہوا بھی۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے انبار وزارتِ قانون کی الماریوں میں دفن ہوتے چلے گئے اور قوم کا وہ پیسہ جو اس پر خرچ ہوا مسلسل ضائع ہوتا رہا)۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے خط پر ششم میں اگرچہ علماء بورڈ کی تجویز کو عارضی طور پر اختیار کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم اسے ”خط ناک“ بھی فرار دیا تھا اور مستقل نظام کے اعتبار سے اسے بالکل مسترد کر دیا تھا۔

اس کے برعکس اگر کتاب و سنت کی بالا دتی کو اصولاً تسلیم کر کے اس کے عملی نفاذ کے معاملے کو کلیتاً پارلیمنٹ یا متفہنے ہی کی صوابید پر چھوڑ دیا جائے تو منطقی طور پر لازم ہو گا کہ پارلیمنٹ کے لئے انتخابات میں حصہ لینے کی الیت کے ضمن میں سیرت و کردار کی درستی اور اس معاملے میں کم از کم معیار کے لزوم کے ساتھ ساتھ دین و شریعت کے بنیادی علم و فہم کو بھی لازمی شرط قرار دیا جائے اور ایک طویل المیعاد منصوبے کے اعتبار

سے یہ ناقابلِ عمل بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ نے بھی اپنے نمکورہ بالا خلیجی میں علماء بورڈ کے مقابل کے طور پر یہی تجویز فرمایا ہے کہ ایک جانب علامہ دین اور ماہرین شریعت خود مقتنہ میں مؤثر حیثیت سے شریک ہوں اور دوسرا جانب ملک کے نظام تعلیم میں دین و شریعت کے علم و فہم کو جزو لا یغایق کی حیثیت سے شامل کیا جائے۔ تاہم ایک تو فی الوقت کم از کم قابل دید مستقبل کی حد تک یہ دونوں پاتیں حاصل اور دستیاب نہیں ہیں۔ دوسرے ہر معاملے میں آخری فیصلہ کا دار و مدار بالعلوم نہایت باریک اور چیزیں اور علمی نکات پر ہوتا ہے جن پر بحث و تجھیں کی مناسب جگہ جس طرح ”جلہ عام“ اور ”بیووم مومنان“ نہیں ہوتا اسی طرح پارلیمنٹ کا فلور بھی نہیں ہوتا جہاں ساری بحث اور گل جنگ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے مابین سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بلکہ اس کے لئے مناسب جگہ عدالت ہی ہوتی ہے جہاں ماہرین قانون و دستور کو بھی بحث و تجھیں کا پورا حق اور موقع حاصل ہوتا ہے اور علماء دین اور ماہرین شریعت کو بھی اپنے دلائل پیش کرنے کی پوری آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جانہمیں کی طرف سے مسئلے کی پوری چھان بچک اور جملہ مخالف و موافق دلائل کے سامنے آنے کے بعد عدالت کے لئے صحیح فیصلے تک پہنچنا قطعاً مشکل نہیں رہتا۔

الغرض، ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں قرآن و سنت کی بالادستی کی عملی تفہید کے ضمن میں پیش رفت کے لئے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ اصولاً تو درست تھا لیکن بعض ”دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنادے۔ ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنادے!“ کے مصدقاق چونکہ وہ اس معاملے میں بالفعل ”دیوانگی“ کی بجائے زمانہ سازی والی ”فرزاںگی“ پر عمل پیرا تھے، لہذا انہوں نے درست سمت میں اقدام کے ساتھ تین کام ایسے بھی کئے جنہوں نے اس پورے معاملے کو فی الواقع ”تماشا“، بنا کر کھو دیا۔ یعنی:

ا) اولاً شرعی عدالتوں یا عدالت کا جدا گانہ نظام، جس سے دین و دنیا اور نہب و ریاست کی ”دوئی“ اور علیحدگی کے سیکولر تصور کو تقویت حاصل ہوئی۔

(۲) شرائط ملازمت اور حقوق و مراجعات کے باب میں شرعی عدالت کے نجع صاحبان کا معیار موجودہ دنیا کے مرقبہ اور مسلمہ معیارات (جو خود ہمارے ملک میں بھی دوسری عدالتوں کے ضمن میں رائج ہیں) سے کم تر رکھا، جس سے ان شبہات کو تقویت حاصل ہوئی کہ درحقیقت یہ سارا کھیل اپنی سیاسی مصلحتوں اور مقاصد کے تحت کھیلا جا رہا ہے۔ اور

(۳) سب سے بڑھ کر یہ کہ ”وفاقی شرعی عدالت“ کے دونوں ہاتھوں میں دو ٹھکریاں بھی پہنادیں اور دونوں ٹانگوں میں دو ٹھیڑیاں بھی ڈال دیں۔ یعنی ایک جانب دستورِ پاکستان اور عدالتی قوانین کو اس کے دائرہ کار سے باہر قرار دے دیا تو دوسری جانب مالی معاملات اور حدیہ ہے کہ عالمی قوانین تک کو اس کی ”دستبرہ“ سے محفوظ کر دیا اور اس طرح گویا پورے ملک اور پوری قوم کو اس پوزیشن میں کھڑا کر دیا جو سورۃ البقرۃ کی آیت ۸۵ میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ:

﴿أَفَقُولُمْنُونَ بِعَضِ الْكِتَبِ وَتَخْرُونَ بِبَعْضٍ طَفْمَا جَزَاءَهُمْ بِمَا فَعَلُوا كَمْنُكُمُ الْأَخْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا طَوْبُ الْقِيمَةِ يُرْكُونُ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ طَهُ﴾
”تو کیا تم (ہماری) کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے؟ تو جان لو جو لوگ یہ روشن اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی میں جتنا کئے جائیں، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیئے جائیں!“ (اعاذ نا اللہ ممن ذلک)

قصہ مختصر، اگر ہماری نیت اور ارادہ پاکستان میں فی الواقع ایک حقیقی اسلامی ریاست قائم کرنے کا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ ملک کے دستور اسی کی نافذ العمل اور واجب العمل دفاتر میں قرارداد مقاصد کو دفعہ ۲ کی حیثیت دینے کے فوراً بعد اس دفعہ کو شامل کیا جائے کہ ”یہاں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کو ہر معاملے میں مطلق بالادستی حاصل ہوگی اور کسی بھی سطح پر کوئی قاعدہ یا قانون ایسا نہیں بنایا جاسکے گا جو کتاب و سنت کے منافی ہو!“ اور اس کی عملی تخفیف کا یہی راستہ اختیار کیا

جائے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہو کہ اس پہلو سے کسی بھی معاملے میں اعلیٰ عدالتوں کے در پر دستک دے سکے اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو یہ اختیار حاصل ہو کہ اس اصول کی بنیاد پر کسی بھی قانون یا قاعدے کو جزوی یا کلی طور پر کا عدم قرار دے سکے!

البتہ یہ ظاہر ہے کہ حالات موجودہ اس "کڑوی گولی" کا لٹکنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ملک و قوم کے خواص و عوام کی معتقد ہے اور موثر تعداد اسلام پر با فعل عمل پیرا ہونے اور مسلمان جینے اور مسلمان مرنے کا عزم معمم کر لے اور بحیثیت جمیعی قوم میں اسلام کے حق میں ایک "جمیعی ارادہ" (Collective Will) نہ صرف پیدا ہو جائے بلکہ با فعل ظہور کر کے جانی و مالی قربانیوں کے ذریعے اپنالوہمنوا لے۔ اور چونکہ حال ملک کی بیشتر نہیں جماعتوں نے، مجائز اس کے کہ اپنی جملہ مساعی کو اسی ایک نکتے پر مرکوز کرتیں؛ انہیں کشاکش اقتدار کے میدان میں ضائع کیا ہے، لہذا انفاذ شریعت کے ساتھ جو مذاق ضیاء الحجت مرحوم نے متنزہ کردہ بالا صورت میں کیا تھا اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کر نام نہاد شریعت مل کے ذریعے شریعت کی جو مٹی آئی ہے آئی کی حکومت کے ہاتھوں پلید ہوئی وہ نوع "جو میں بت کدے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری!" کے مصدق اس داستان کا تاریک ترین باب ہے۔

جدید اسلامی ریاست میں قومیت کا مسئلہ

عہد حاضر میں "قومیت" کا ایک تصور تو وہ ہے جسے انگریزی میں **Nationality** سے تبییر کیا جاتا ہے اور عربی میں "جنیت" سے۔ یہ ایک خالص انتظامی معاملہ ہے جو صرف ملک سے باہر جانے کے لئے "جو ای سفر" یعنی پاسپورٹ میں اندر اراج کے کام آتا ہے۔ (واضح رہے کہ عربی زبان میں پاسپورٹ کو واقعی "جو ای سفر" ہی کہا جاتا ہے اور اس لفظ کے حوالے سے جو شعر مجھے ہمیشہ یاد آ جایا کرتا ہے، اور جو عہد حاضر کے بہت سے رہنماؤں پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے، قارئین کی تقدیں طبع کے لئے پیش خدمت ہے۔ "تری رہبری کا یہ فیض ہے، قدم اہل شوق کے رک گھے۔ نہ کوئی جو ای سفر ملانہ کوئی دلیل قیام ہے!") اس معنی میں

ہندوستان میں ہے والا ہر انسان خواہ مسلمان ہو یا ہندو اور عیسائی ہو یا پارسی "ہندی" (انڈین) کہلاتا ہے اور اسی طرح پاکستان میں آباد ہر انسان خواہ کسی بھی صوبے میں رہائش پذیر ہو، پھر خواہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی مذہب یا مسلک سے مسلک ہو "پاکستانی" قرار پاتا ہے۔ بہر حال قومیت کا یہ تصور ایک انتظامی ضرورت ہونے کے اعتبار سے "مباح" ہے اور اس میں دینی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔

لیکن "قومیت" کے مسئلے کا دوسرا پہلو خالص نظریاتی اور فلسفیانہ ہے۔ چنانچہ عہد حاضر کا مشہور و معروف اور مقبول و محبوب نظریہ تودہ ہے جسے "وطنی قومیت" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کی رو سے کسی ملک میں رہنے والے تمام انسان خواہ وہ اس کے کسی بھی حصے یا اعلانے میں آباد ہوں، پھر خواہ کسی بھی نسل سے متعلق ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، حتیٰ کہ کسی بھی عقیدے یا مذہب کے پیروکار ہوں، کم از کم دستوری اور قانونی اعتبار سے ان کے جملہ "حقوق" بالکل "مساوی" ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت پوری دنیا میں "نیشن شیٹ" کا یہ تصور پوری طرح چھایا ہوا ہے لہذا اس سے مخلف کسی بات کو نہ صرف یہ کہ ذہن آسانی کے ساتھ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر غور کرنے کے لئے بھی پہ مشکل ہی آمادہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ حقیقت بادنی تامل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ تصور "اسلامی ریاست" میں نہیں، کسی بھی نظریاتی ریاست کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ کسی نظریاتی معاشرے میں اگر چنسل، رنگ اور زبان کی بنا پر تو انسانوں کے مابین کوئی تقسیم یا تفہیق نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ خود نظریے کی اساس پر تو ایک امتیاز قائم ہوتا ہے اور اس کی بنا پر ریاست کے نظام کو بالفعل چلانے کی اصل ذمہ داری اور اس کی اعلیٰ ترین سطح پر پالیسی کی ترجیحات طے کرنے کے معاملے میں ایک فرق اور تفاوت بہر حال وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ "اسلامی ریاست" میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا دستوری اور آئندی سطح پر حقوق اور اختیارات کے اعتبار سے بالکل "مساوی" ہونے کا تصور نہ صرف یہ کہ قطعاً غیر منطقی اور غیر معقول ہے بلکہ بجائے خود "اسلامی ریاست" کے بنیادی تصور کی کامل نئی کے مترادف ہے۔

اس مسئلے کے خالص علمی اور نظری پہلو سے قطع نظر، خاص طور پر پاکستان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ قائم ترقی و طبقی قومیت کے متذکرہ بالا معروف تصور کی نفی پر ہوا ہے۔ اس لئے کہ انہیں نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین اصل نزاع ہی یہ تھا کہ کانگریس و طبقی قومیت کے نظریے کی علمبردار تھی جبکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جدا گانہ قومیت کی دعوے دار تھی۔ اور مسلمانوں کی قومیت کی اساس ان کے جدا گانہ نظریات و عقائد زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان کے علیحدہ تو این خصوصیات اور فی الجملہ ان کی جدا گانہ تہذیب و ثقافت کو قرار دیتی تھی۔ چنانچہ ”مسلم قومیت“ کی اس اساس پر حصول پاکستان کی تحریک چلائی گئی، جو کامیاب بھی اسی لئے ہوئی کہ مسلم لیگ نے مسلمانان ہند کی عظیم اکثریت کے احساسات و جذبات کی صحیح ترجمانی کی تھی۔ گویا علماء اقبال کا یہ شعر کہ۔

”اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہائی!“

اگرچہ نظری اور اصولی طور پر تو پوری امت مسلمہ اور جملہ مسلمانانِ عالم پر منطبق ہوتا ہے، تاہم واقعی اور تاریخی اعتبار سے بھی کم از کم ناپاکستان پر تو صدقی صد صادق آتا ہے، اس لئے کہ اس نے تو گویا جنم ہی اس نظریے کے بطن سے لیا ہے کہ۔

”ان کی جمیعت کا ہے ملک و نسب پر انحصار

قوتِ مذهب سے منکم ہے جمیعتِ تری!“

لہذا اس ملک میں و طبقی قومیت کے نظریے کا عملی نہاد منطقی اعتبار سے خود اس کے وجود ہی کی نفی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ واضح رہنا چاہئے کہ منطق کی تلوار بڑی بے رحم ہوتی ہے اور اس عالمِ اسباب میں جو شے اپنا منطقی جواز کھو بیٹھے وہ جلد یا بدیراپنا و جود بھی کھو بیٹھتی ہے اور بالآخر معدوم ہو کر رہتی ہے!

اس جملہ مفترضہ سے قطع نظر، اسلامی ریاست میں اگرچہ بعض بنیادی حقوق شہریت میں تو مسلم اور غیر مسلم سب برابر کے شریک ہوں گے، لیکن دو سطھوں پر غیر مسلموں کی شرکت و شمولیت عقلی اعتبار سے غیر منطقی اور اخلاقی اعتبار سے محض دھوکا اور

فریب کے مترادف ہے۔ یعنی:

۱) ”قانون سازی“ کو اگر حق قرار دیا جائے تب بھی، اور ذمہ داری سے تعبیر کیا جائے تب بھی، یہ اسلامی ریاست میں صرف مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے۔ اس میں کسی غیر مسلم کی شرکت یا شمولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

چنانچہ قانون سازی کو اگر حق سمجھا جائے، جیسا کہ عہد حاضر میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے، تب بھی چونکہ اسلامی ریاست میں قانون کا اصل منع قرآن اور سنت رسول ﷺ ہیں لہذا جو لوگ نہ قرآن پر ایمان رکھتے ہوں نہ رسول اللہ ﷺ پر، انہیں یہ حق کسی بھی دلیل کے تحت نہیں دیا جاسکتا۔ سو اس کے کہ صرف اس حقیقت واقعی کے پیش نظر کہ چونکہ ایک ایسے ملک میں جس کے باشندوں کی عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہو، اس بیلی یا پارلیمنٹ میں غیر مسلموں کی تعداد بہر صورت آئئے میں نہ ک کے برابر ہو گی لہذا وہ کسی طرح موثر نہیں ہو سکتے، یہ خیال کیا جائے کہ محض دنیا کو دھوکہ دینے کی خاطر انہیں بھی نیشنل اس بیلی یا پارلیمنٹ میں شرکت کا موقع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے! تاہم یہ معاملہ ”گندم نمائی اور جوفروٹی“ کے مترادف ہے جو اسلامی ریاست کے اعلیٰ اور ارفع اخلاقی تصورات کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتا۔

مزید برآں، حقیقت کے اعتبار سے اسلامی ریاست میں قانون سازی کا معاملہ ”حق“ نہیں، ایک نازک ”ذمہ داری“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی اصل نوعیت ”اجتہاد“ کی ہے جس کے تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کرنے کے لئے ایمان کے بھی صرف زبانی اقرار کی نہیں تو حید، معاد اور رسالت پر گھرے ”یقین“ کی ضرورت ہے، تو جو لوگ زبانی اقرار تک سے محروم ہوں ان پر اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ کس طرح ڈالا جاسکتا ہے؟ اور ان سے یہ توقع منطق کے کس اصول یا قاعدے کے تحت رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کسی زیر غور مسئلے میں کتاب و سنت کے اصل منها اور حقیقی مقصد کو میں کرنے میں مقدور بھرستی وجہد کا حق ادا کر سکیں گے؟

۲) ثانیاً کسی نظریاتی ریاست کی اعلیٰ ترین پالیسی کی سطح پر اولین ترجیح اس

نظریے کے فروع اور عالمی سطح پر اس کی نشر و اشاعت کو حاصل ہوتی ہے جس پر اس کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ مبہی وجہ ہے کہ سوویت یونین کی حکومت اور قیادت پر چینی کمیونسٹوں کا اولین الزام ہی یہ تھا کہ اس نے مارکسی نظریے کی علمبرداری اور اس کے عالمی سطح پر فروع کو پس پشت ڈال کر ”روسی نیشنلزم“ کی راہ اختیار کر لی ہے۔ تاہم یہ صرف ایک ”تعمیہ“ ہے، دلیل نہیں۔ اس لئے بھی کہاب خود چین بھی ”زو وال علم و عرفان“ کی اسی کیفیت سے دوچار ہو چکا ہے، اور اس لئے بھی کہ ہمارے لئے اصل دلیل قرآن اور حدیث ہیں، جنہیں کبھی کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ بہر حال قرآن و حدیث دونوں کی زو سے کسی بھی اسلامی ریاست کی پالیسی کی ترجیح اول ہی نہیں، اس کا مبنی مقصد وجود ہی یہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر اللہ کے دین حق کا بول بالا کرنے کے اس مشن کی تکمیل کے لئے اپنی چوٹی کا زور لگا دیا جائے جس کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوئے اس کے دین کی حقانیت پر اور نہ رسول اللہ ﷺ پر یقین رکھتا ہوئے ان کے مشن اور مقصد بعثت پر، اس سے کیسے تو قع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی اور فکری صلاحیتوں کو اسلامی ریاست کے اس مقصد وجود کی تکمیل تو کجا اس کی اس ترجیح اول کی تقویت تک کے لئے صرف کرے گا، الہ یا کہ خود اپنے عقیدے اور نظریے کے ساتھ اس کا تعلق ”منافقانہ“ ہوا وہ حقیقی اور باطنی طور پر مومن و مسلم ہو۔ بصورتِ دیگر اگر وہ واقعی اور حقیقی اعتبار سے کسی اور عقیدے اور نظریے کا قائل ہو تو اس کا لازمی اور منطقی تقاضا یہ ہے کہ وہ شعوری یا غیر شعوری اور ارادی یا غیر ارادی طور پر اسلامی ریاست کے اس مقصد اعلیٰ کے خلاف کام کرے! اور واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اس پوزیشن میں لا کھڑا کرنا خود اس پر ”ظللم“ ہے۔ (چنانچہ فی الوقت پاکستان کے دستور میں یہ تضاد موجود ہے کہ تو یہ اور صوبائی اسلامبیوں کے غیر مسلم ارکان سے بھی حلف لیا جاتا ہے کہ ”میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اسلامی آئینہ یا لوچی کو برقرار کھوں جو پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے!“)

(۳) اسی اصول کے ”عکس“ (Converse) یا منطقی فرع (Corollary) کی

حیثیت سے ایک نظریاتی ریاست ہونے کے ناطے اسلامی ریاست میں کسی کو اس کے اساسی نظریے پر حملہ کرنے اور اس کے برعکس عقائد و نظریات کے پرچار کی اجازت بھی نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے کہ اس کی تو اساس اور بنیاد ہی اس نظریے پر قائم ہوتی ہے، اور اس نظریے کے ضعف کا منطقی تبیجہ خود ریاست کا ضعف و احتلال ہے۔ بنابریں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو خود اپنے لوگوں میں اپنے عقائد و خیالات کی تبلیغ و تلقین اور اپنی آئندہ نسلوں کی اپنے نظریات کے مطابق تعلیم و تربیت کا حق تو حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی۔

ان تین معاملات کے سوا، باقی جملہ بنیادی حقوقی شہریت کے اعتبار سے اسلامی ریاست میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ماہین کوئی فرق و امتیاز نہیں ہوتا۔ یعنی:

۱) اسلامی ریاست بلا محااظہ نگہ نسل اور بلا امتیاز مذہب و مسلک اپنے ہر شہری کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا "زمہ" لیتی ہے۔

۲) اسی طرح ہر شہری کو عقیدے "نمہ" ہی عبادات اور معاشرتی رسومات کی کامل آزادی کی ضمانت دیتی ہے اور جملہ عبادات کا ہوں کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے۔

۳) شادی یاہ اور طلاق وغیرہ کے علاوہ قانون و راثت سمیت "شخصی قوانین" کے ضمن میں بھی کامل آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔

۴) اور ان سے بھی بڑھ کر یہ کہ اسلامی ریاست اپنے ہر شہری کی بنیادی معاشی ضروریات کی کفالت کا بھی "زمہ" لیتی ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ (خاص اس موضوع پر مفصل گفتگو ان شاء اللہ نظام اسلامی کی معاشی اور اقتصادی ترجیحات کے ضمن میں ہوگی۔)

واضح رہے کہ یہاں "زمہ" کا لفظ بار بار اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ "ذمی" کی اسلامی اصطلاح کی اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ ہر گز نہ کوئی گالی ہے نہ کسی بھی درجہ میں تحریر آ میز لفظ، جیسا کہ اسلام کے دشمنوں نے اسے بنا دیا ہے تاکہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کو خود اپنے آپ، اپنے ماضی اور اپنی دینی اصطلاحات سے بے گانہ ہی نہیں

تفیر بنا دیا جائے۔ اس لئے کہ شہریت کے ان چار بنیادی حقوق کے اعتبار سے جن کا تذکرہ اوپر ہوا ہے اسلامی ریاست کا ہر شہری، خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم، ریاست کا ”ذمی“ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم ﷺ نے کسی انسان کے مسلمان قرار دیئے جانے کی شرائط و صفات کے تذکرہ کے بعد فرمایا ہے کہ:

(فَنَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ)

”ایسا شخص وہ مسلم ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ ہے،

پس اللہ کے اس ذمہ کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی تحریر کے مرکب نہ بنو!“

تاہم شریعت اسلامی میں ”ذمی“ کی اصطلاح اس کے غیر مسلم شہریوں کے لئے اس لئے مخصوص کر دی گئی ہے کہ اسلامی ریاست اپنی متذکرہ بالا چار بنیادی ذمہ داریوں میں تو ان کو مسلمانوں کے ساتھ رابر کا شریک کرتی ہے۔ مزید برآں، تجارت، صنعت و حرفت اور سرکاری مکملوں میں ملازمت کے دروازے بھی ان کے لئے مساوی طور پر کھولتی ہے اور دنیاوی ترقی کے جملہ مواقع یکساں طور پر فراہم کرتی ہے، تاہم قانون سازی اور ریاست کے بلند ترین مقصد یعنی کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لئے تن من وہن لگادیئے کی ذمہ داری کا ”بوجہ“ ان پر نہیں ڈالتی۔

یہاں اس امر کی وضاحت بھی مناسب ہے کہ اسلامی ریاست کے ضمن میں ذمی ہی کی طرح ”جزیہ“ کی اصطلاح کو بھی گالی بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ”جزا“ سے مlix ہے اور ”بدل اشتراک“ کی حیثیت سے بالکل تیکس کے ہم معنی ہے۔ اس لئے کہ ہر ریاست اپنے شہریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت (اور ایک فلاٹی ریاست میں اس سے بھی بڑھ کر بنیادی معاشری ضروریات کی کفالت) کا جو ذمہ لیتی ہے اس کے لئے وسائل کی فراہمی کے لئے شہریوں سے مختلف قسم کے تیکس وصول کرتی ہے، لیکن ایک اسلامی ریاست میں مسلمانوں سے وصول کیا جانے والا سب سے بڑا ”تیکس“ زکوٰۃ ہے جو عبادات میں شامل ہے، لہذا ”جزیہ“ کی اصطلاح صرف غیر مسلم

شہریوں سے وصول کئے جانے والے بھیکس کے لئے مخصوص کر دی گئی۔ (اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عہد حاضر میں جملہ مسلمان ممالک میں بھی جہاں زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں بلکہ دنیا کے عام رواج کے مطابق مختلف قسم کے بیکسوں ہی کا نظام راجح ہے گویا مسلم اور غیر مسلم سب ”جزیہ“ ادا کر رہے ہیں !)

حاصل بحث یہ کہ عہد حاضر کی اسلامی ریاست میں وطنی قومیت کے نظریے کو صرف انتظامی اور بالخصوص غیر ملکی سفر کے ضمن میں پاسپورٹ کے اجراء کی حد تک تو قبول کیا جاسکتا ہے، لیکن ریاست کی اصل اساس ”مسلم قومیت“ پر قائم ہو گی جس میں مقتضیہ اور عدالتیہ کی بلند ترین سطح پر غیر مسلموں کی شرکت اور شمولیت خارج از بحث ہے۔ اس مرضی پر مختصر گفتگو اس موضوع پر بھی ہو جائے تو مناسب ہے کہ اگرچہ خالص اصولی اعتبار سے توجہ یہ اسلامی ریاست کے لئے پاریمانی اور صدارتی طرزِ حکومت کو بالکل یکساں طور پر مباح کی جیشیت سے اختیار کیا جاسکتا ہے، تاہم عملی اعتبار سے صدارتی نظام زیادہ مناسب ہے۔ اس لئے بھی کہ یہ خلافع براشده کے نظام کے قریب تر ہے اور اس لئے بھی کہ اس میں سربراہ ریاست اور سربراہ حکومت کی ہمیت سے پیدا ہونے والی کوئی وجہی گی موجود نہیں ہوتی۔ پھر اس لئے بھی کہ اس میں ریاست کے تین اعضاً نے رئیسہ ملکہ حد تک علیحدہ علیحدہ شخص اور معین ہوتے ہیں (جبکہ پاریمانی نظام میں مقتضیہ اور انتظامیہ گذشتہ ہو جاتی ہیں !) اور سب سے بڑھ کر اور آج کی بحث کے اعتبار سے اہم ترین یہ کہ اس میں غیر مسلموں کی شرکت اور شمولیت کا معاملہ واضح طور پر معین ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں وہ مقتضیہ میں سرے سے شامل نہیں کئے جاسکتے، وہاں انتظامیہ اور عدالتیہ کی صرف اعلیٰ ترین سطح کے سوا ان کی ہر سطح پر شمولیت ہو سکتی ہے۔ یعنی صدرِ مملکت یا ”خلفیۃ المسلمين“ کا عہدہ تو ظاہر ہے کہ صرف مسلمان کے لئے مختص ہو گا، اور صرف مسلمانوں ہی کے ووثوں کی بنا پر وجود میں آئے گا، لیکن اس کے نیچے وزراء تک جو صدارتی نظام میں مقتضیہ کے منتخب ارکان میں سے نہیں بلکہ صرف ذاتی قابلیت اور فنی مہارت کی بنا پر مقرر کئے جاسکتے ہیں غیر مسلموں میں سے لئے جاسکتے

ہیں۔ اسی طرح صرف بلند ترین عدالت تو چونکہ مقتنه کے ”اجتہاد“ کے ضمن میں اس فیصلے کی مجاز ہو گئی کہ یہ جزوی یا کلی طور پر قرآن و سنت کے حدود سے متجاوز ہے یا نہیں، لہذا اس کے نجح تو لاحالہ صرف مسلمان ہی بن سکیں گے لیکن ماتحت عدالتیں چونکہ صرف مقتنه کے تدوین کردہ قوانین کے تحت فیصلے کرنے کی مجاز ہوں گی، لہذا ان میں غیر مسلموں کو بطور نجح شریک کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

ابتدہ پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر صدارتی نظام کے اختیار کرنے میں یہ قباحت واقعہ موجود ہے کہ موجودہ وفاقی اکائیاں یعنی صوبے آبادی کے اعتبار سے بہت غیر متوازن ہیں اور اس کی بنا پر چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو اندر یہشہ ہو سکتا ہے کہ صدارتی نظام میں صدر ہمیشہ کسی ایک ہی بڑے صوبے سے ہو اور اس طرح چھوٹے صوبے گویا مستقل طور پر ”غلام“ بن جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک میں ان قسم کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہرگز مشکل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ پاکستان کے موجودہ صوبوں کا لفظ اور ان کی حد بندی اگر یہوں نے اپنی انتظامی سہولتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر کی تھی۔ اور اب جبکہ پاکستان کے پورے دستوری اور سیاسی ڈھانچے کے ضمن میں ایک نئے ”سوشل کنٹریکٹ“ کی بات ہو رہی ہے ایسے نئے صوبوں کا قیام جن کی آبادی میں ایک حد تک برابری اور تووازن پیدا ہو جائے نہایت آسان ہے۔ اور اگر کسی صوبے کے باشندوں کو تاریخی اور ثقافتی اسباب کی بنا پر اپنے صوبے کا نام اتنا محبوب ہو کہ وہ اسے کسی صورت میں تبدیل نہ کرنا چاہیں تب بھی ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے کہ امریکہ میں دو دریاستیں ایک ہی نام کی حامل موجود ہیں، جیسے نارتھ کیر ولاٹا اور ساؤ تھر کیر ولاٹا اور نارتھ ڈکوتا اور ساؤ تھر ڈکوتا وغیرہ۔ اور اس ضمن میں آخری بات یہ کہ جہاں انسان کے اب تک کے عمرانی ارتقاء کی بلند ترین صورت ایک جانب صدارتی جمہوری نظام ہے اور دوسری جانب وفاقی نظام حکومت، وہاں زوج عصر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وفاقی اکائیاں جنم میں چھوٹی ہوں اور انہیں زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری دی جائے۔

متذکرہ بالا تدبیری اور عمرانی ارتقاء کا ساتھ دینے کی بجائے ہم تا حال پاریمانی نظام حکومت اور موجودہ صوبوں کو ان کے ناموں سمیت مخفی انگریز کی وراشت کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ پاریمانی نظام کے حق میں کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے اور یہ صرف یا تو ان ممالک میں رائج ہے جہاں ماضی میں انگریزوں کی عملداری تھی یا پھر ان میں جو انگریزوں ہی کی طرح کی روایت پرستی کے تحت سابق نظام بادشاہت کی علامتوں اور یادگاروں کو عجائب گھروں یا چڑیا گھروں کے مانند برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ رہے صوبے اور ان کی حدود اور نام تو ان کے ضمن میں تو ہماری انگریزوں کی وراشت میں سرموتریمیں یا تبدیلی سے گریز کی انتہاء کا مظہر یہ حد درجہ غیر معقول اور غیر منطقی رویہ ہے کہ ہم نے تا حال صوبہ سرحد کا نام بھی تبدیل نہیں کیا۔ حالانکہ ”شمال مغربی سرحدی صوبہ“ متحده ہندوستان میں تو کسی درجہ درست نام ہو سکتا تھا، پاکستان میں تو یہ نام نہایت نامعقول ہی نہیں حد درجہ مختلکہ خیز بھی ہے۔ اس لئے کہ یہاں تو چاروں صوبے ”سرحدی“ ہیں۔ چنانچہ پنجاب شمال مشرقی سرحدی صوبے ہے تو سندھ اور بلوچستان علی الترتیب جنوب مشرقی سرحدی صوبے اور جنوب مغربی سرحدی صوبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ملٹن کام کام از کم تقاضا یہ ہے کہ باقی صوبوں کے نام بھی اسی طور سے رکھ دیئے جائیں یا صوبہ سرحد کو وہاں کے باشندوں کی خواہش کے مطابق پختونستان یا پختون خواہ کا نام دے دیا جائے۔ گویا ”یا چنان کن یا چنیں!“

اسلام اور سماجی انصاف

ایک مکمل نظامِ زندگی کی حیثیت سے اسلام کی اعلیٰ ترین قدر اس کا آخری ہدف اور اصل مقصد و مطلوب عدل اجتماعی یعنی سماجی انصاف یا سو肖ل جسٹس ہے جس کے تین نمایاں ترین مظاہر ہیں: (۱) سماجی اور قانونی سطح پر کامل مساوات (۲) سیاسی سطح پر حریت اور (۳) معاشی سطح پر عدل و انصاف۔ چنانچہ اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں نہ معاشرتی میدان میں اور جنچ اور ادنیٰ و اعلیٰ کا امتیاز ہوئے سیاسی میدان میں جبراً و استبداد کاراج اور بندہ و آقا، حاکم و مکوم اور مستکبرین اور مستغطیین کی تقسیم ہوئے اقتصادی میدان میں انسان ظلم اور استھصال کے باعث Haves اور Have nots یعنی مترفین و محرومین میں منقسم ہوں!

یہاں ایک وضاحت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کو خیال آئے کہ اسلام کی اعلیٰ ترین قدر تو تقرب الی اللہ اور تعلق مع اللہ یعنی بندہ اور رب کے مابین خلوص و اخلاص اور باہمی محبت و ولایت کا رشتہ ہے! تو اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ واقعہ یہی ہے کہ اسلام انفرادی سطح پر بندہ مؤمن کو جو بلند ترین نصب ایسین عطا کرتا ہے وہ رضاۓ الہی اور فلاح اخروی کا حصول ہے، لیکن اس حقیقت سے صرف نظر کر لینا بھی شدید قسم کی جسی اور ننا انصافی ہو گی کہ جس نظر ارضی میں نظام اجتماعی ظالمانہ اور استھصالی ہو وہاں کے لوگوں کی ظلم اکثریت کو ہو کے بیلوں اور بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور فرمان نبوی ﷺ ((کَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَمْكُونَ كُفْرًا)) یعنی "قریب ہے کہ فقر و احتیاج کفر کی صورت اختیار کر لیں!" اور قول شاعر۔

"دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تھے سبھی دلفریب ہیں غم روزگار کے!"
کے مصدق ان میں نہ اتنا شعور باقی رہ جاتا ہے کہ اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کر سکیں، نہ اتنی فرصت ہی حاصل ہوتی ہے کہ مجھے بیٹھے رہیں تصویر جاتاں کئے ہوئے!
کے مصدق اسے یاد کر سکیں یا اس سے نوگا سکیں! اس سلسلے میں امام الہند شاہ ولی اللہ

دہلوی کا یہ قول آب زر سے لکھنے کے قابل اور لوہ قلب وذہن پر نقش کر لینے کا مستحق ہے کہ تقسیم دولت کا غیر منصفانہ نظام ایک دودھاری تلوار ہے جو معاشرے کو دونوں جانب سے کاثتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک جانب ایک محدود طبقے میں دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے جس سے عیاشی اور بد اخلاقی جنم لیتی ہے، اور دوسرا جانب فقر و احتیاج کا ذور دورہ ہو جاتا ہے جس سے انسان ڈھور ڈگر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں! بنا بریں خانقاہی نظام کے بر عکس، جو مجاهدہ نفس اور ریاضت و مراقبہ ہی کو تقصیود و مطلوب بنالیتا ہے، اسلام نے اپنا "ذروہ نام" یعنی چوٹی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا ہے جس کا اصل ہدف ہے: قیامِ نظامِ عدلی اجتماعی اور ظلم و جبرا اور استبداد کا خاتمه!!

اسلام میں اس عدل اجتماعی یا سماجی انصاف یعنی سو شل جسٹس کو جواہیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس مسئلے میں قرآن حکیم کی عام تعلیمات پر متزad ان تصریحات کے جائزہ سے آسانی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جو تین بلند ترین سطحوں یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور امت مسلمہ کے فرائض منصبی کے ضمن میں وارد ہوئی ہیں۔

(1) اسلام کی اصل اساس ایمان باللہ ہے اور ایمان باللہ اور معرفت الہی کا واحد ذریعہ اللہ کے اسماء و صفات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء حسنی کی تفصیل پر مشتمل جو حدیث امام ترمذی اور امام بیہقیؑ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام نامی اور اسم گرامی "العدل" بھی ہے، یعنی سراپا عدل اور بجمسم انصاف۔ قرآن حکیم میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام تو وارونہیں ہوا، تاہم متعدد مقامات پر اس کی اس شان کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً:

(i) ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (المؤمن: ۲۰)

"اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔"

(ii) ﴿وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ (الانعام: ۱۱۶)

"تیرے درب کی بات صدق و عدل کے جملہ معیارات کے مطابق پوری ہو چکی ہے۔"

(iii) ﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمُلِّينَكُهُ وَأُولُوا الْعِلْمُ قَانِمًا بِالْقُسْطَطِ﴾

(آل عمران: ۱۸)

”خود اللہ بھی گواہ ہے اور سب فرشتے اور تمام اہل علم بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔“

(iv) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (السائدۃ، الحجرات اور المحتمنہ)
”اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

(۲) ایمان باللہ کے بعد درجہ اور مرتبہ ہے ایمان بالرسالت یعنی بعثت انبیاء و رسول اور ازال کتاب و شریعت پر یقین کا۔ چنانچہ یہ بات بھی قرآن حکیم نے نہایت واشکاف الفاظ میں واضح کر دی ہے کہ ان جملہ امور کا اصل مقصد یہ ہے کہ ”انسان عدل و انصاف پر قائم ہوں۔“

اس اہم موضوع پر قرآن حکیم کی سب سے زیادہ ”انقلابی آیت“ سورۃ الحدید کی آیت ۲۵ ہے جس کے بارے میں بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنے محترف الفاظ میں اس قدر جامع اور اتنی بھرپور اور گھمیزیر انقلابی عبارت کی کوئی ذوسرا مثال دنیا کے پورے انقلابی لڑپر میں کہیں نہیں مل سکتی۔

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًاٰ إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُوا النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُنْصَرُهُ وَرَسُلَهُ بِالغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ۵۰

اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ بعض تشریعی اضافوں کے ساتھ یوں ہوگا:
”یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو روزگار نہائیوں (یعنی مجزات و برآہیں) کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں اور (جو لوگ اس میزان عدل کے نصب کرنے میں رکاوٹ نہیں ان کی سرکوبی کے لئے) ہم نے لوہا اتارا جس میں (حرب و ضرب کی) شدید قوت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لئے (کچھ دوسرے) فائدے بھی ہیں۔ اور (اس سے اللہ کا اصل مقصد یہ ہے) تاکہ اللہ (ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزمائے اور یہ) دیکھئے کہ کون ہیں جو (لوہے کی حریقی قوت کے استعمال کے ذریعے) مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہوتے ہوئے (ورنہ) یقیناً اللہ (خود) نہایت زور آ و اور مختار مطلق ہے!“

اس آئیہ مبارکہ نے نہایت واشگاف الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ:

اولاً: شریعت خداوندی کی اصل حیثیت ایک میزانِ عدل و قسط کی ہے جس میں انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق و فرائض تو لے جانے چاہئیں۔

ثانیاً: بعثت انبیاء و رسول اور نزولِ وحی و کتب سے آخری مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ میزانِ عدل و قسط بالفعل نصب ہو اور جسے کچھ ملے اس میں تسلیم کر ملے اور جس سے کچھ لیا جائے اس میں تول کر لیا جائے۔ اور اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو یہ ”گریبیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں!“ کے مصدق رسولوں کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے باطل اور کتابِ الہی کی تلاوت و قراءت کا ذوق و شوق بے مقصد ہو جاتا ہے۔

ثالثاً: اس میزانِ عدل و قسط کو عملاً نصب کرنے کے ضمن میں جہاں اصل کامِ دعوت و تبلیغ، وعظ و تلقین، انذار و تبیہ اور ترغیب و تہییب سے لیا جائے گا وہاں قوت و طاقت کا استعمال بھی قطعاً غلط یا مطلقاً ناجائز نہیں، بلکہ حسب ضرورت نہ صرف جائز بلکہ بعض صورتوں میں فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔

رابعاً: جس طرح انسان کی حیاتِ دُنیوی کا اصل مقصد از روزے قرآن ابتلاء و آزمائش ہے، جیسے کہ وارد ہوا سورہ الملک کی آیت ۲ میں جس کی ترجمانی کی ہے تہجان حقيقةٰ علامہ اقبال نے اپنے اس حکیمانہ شعر میں کہ۔

”قلزمِ ہستی سے تو ابھرا ہے مانیدِ حباب

اس زیالِ خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی!“

اسی طرح انبیاء و رسول کی بعثت اور کتاب و شریعت کے نزول کا مقصد ان لوگوں کے خلوص اور صداقت کا امتحان ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کے دعوے دار ہوں کہ آیا وہ اللہ کی عطا کردہ میزانِ عدل کو بالفعل نصب کرنے اور اسلام کے نظامِ عدل و قسط کو عملاً قائم کرنے میں تن من وھن کھپاتے، حتیٰ کہ وقت آنے پر نقدِ جان ہٹھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاتے ہیں یا نہیں!

خامساً: وہ صاحب ایمان جو اس امتحان میں پورے اتریں اللہ کے نزدیک بلند ترین مقام و مرتبہ کے مستحق ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے

”مدگار“ قرار پائیں گے۔

قرآن حکیم کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس کتاب عزیز کا ایک مستقل اصول یہ ہے کہ اس میں اہم مضامین کم از کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ الحدید کی اس آیت ۲۵ کی طرح سورہ الشوریٰ کی آیت ۷ امیں بھی کتاب و میران کا ذکر بیجا وارد ہوا ہے: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمَيْزَانَ﴾ یعنی ”اللہ وہ ہے جس نے کتاب بھی حق کے ساتھ نازل فرمائی اور میزان بھی!“ اور اس سے قبل آیت ۱۵ میں نی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے یہ ”مجھے ہے حکم اذ ان لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے انداز میں کہلوایا گیا ہے کہ ﴿وَأَمْرَثْ لَا غَدِيلَ بَيْنَكُمْ﴾ یعنی ”مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو!“... اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نصرت کا ذکر جس انداز میں سورہ الحدید کی اس آیت کے آخر میں آیا ہے بالکل اسی طرح سورہ القف کی آخری آیت میں بھی وارد ہوا ہے۔ یعنی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ...﴾
”اے ایمان والو! اللہ کے مدگار بوجیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مدگار اللہ کی راہ میں؟ تو حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مدگار!“

مرید برآں یہ حقیقت بھی ذہن میں متحضر کر لیجئے کہ سورہ القف کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں نبی اکرم ﷺ کا مقدمہ بعثت یہ بیان ہوا ہے کہ جو دین حق یعنی نظامِ عدل و قسط آپؐ کو دے کر بھیجا گیا ہے اسے پورے نظامِ زندگی پر با فعل قائم کر دیں۔ (۳) نبی اکرم ﷺ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد اب قیامت تک رسالت کے مشن کی تکمیل اور فراخپ رسالت کی ادائیگی کی ذمہ داری امت مسلمہ پر بھیشیتِ مجموعی عائد ہو گئی ہے۔ اس کے ضمن میں قرآن حکیم میں جہاں سورہ الحج کی آخری آیت اور سورہ البقرۃ کی آیت ۱۳۳ میں ”شهادت علی النّاس“ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت ۱۱۰ اور ۱۱۰ میں امر بالمردوف اور نبی

عن امتنکر کے الفاظ وارد ہوئے ہیں وہاں سورۃ النساء کی آیت ۱۳۵ اور سورۃ المائدۃ کی آیت ۸ میں ذرا سی لفظی ترتیب کے فرق کے ساتھ عدل و قسط کی گواہی اور نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا:

﴿بِنَاءً لِّهَا الَّذِينَ أَهْمَنُوا كُوْنُوا فَوَأْمَنُوا بِالْقُسْطِ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَأَنُونَ عَلَى
الْفَسِيْكُمْ...﴾

”اے الہ ایمان! پوری قوت کے ساتھ عدل و قسط کے قائم کرنے والے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے ہو، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جاری ہوا!“

اور سورۃ المائدۃ میں فرمایا:

﴿بِنَاءً لِّهَا الَّذِينَ أَهْمَنُوا كُوْنُوا فَوَأْمَنُوا شُهَدَاءُ اللَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقُسْطِ وَلَا يَعْلُمُونَ مُنْكَمْ
شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا طَاغِيْلُوا فَهُوَ أَقْرَبُ لِلْغَنَوِيِّ...﴾

”اے ایمان والو! پوری قوت کے ساتھ اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ عدل و قسط کی گواہی دیتے ہوئے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم عدل سے انحراف کرو، ہر حال میں عدل سے کام لو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے!“

(۲) اس مضمون کا نقطہ عروج یہ ہے کہ قرآن مظلوم اور محروم طبقات کو صرف صبری کی تلقین نہیں کرتا بلکہ انتقام لینے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ چنانچہ انفرادی سطح پر تو سورۃ النساء کی آیت ۱۳۸ کے یہ الفاظ کفایت کرتے ہیں کہ:

﴿لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ...﴾

”اللہ کو مری بات بلند آواز سے کہتا بالکل پند نہیں، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو!“

اور اجتماعی سطح پر یہ بات نہایت واشکاف الفاظ میں فرمائی گئی ہے سورۃ الشوریٰ کی آیت ۳۹ میں، جہاں ایسے لوگوں کا ذکر مرح و ستائش کے انداز میں کیا گیا ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَتَّصِرُونَ ۝﴾

”جن پر ظلم اور زیادتی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ اور انتقام لیتے ہیں۔“

اور پھر آیات ۱۳۱ اور ۳۲ میں مزید تصریح کی گئی ہے کہ:

﴿وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۵ إِنَّمَا السَّبِيلُ

عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَنْهَا نَفْعًا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾

”جو کوئی انتقام لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ایسے لوگوں پر شکوئی الزام ہے نہ طامت۔ الزام اور طامت کے قابل تو وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں (یعنی ان کے سماجی، سیاسی اور معاشری حقوق غصب کرتے ہیں) اور زیادتی میں ناقص سرکشی کرتے ہیں (یعنی مسکریں اور مترفین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں) ایسے ہی لوگوں کے لئے در دن اک عذاب ہے!“

ان اختتامی الفاظ میں گویا کہ اشارہ موجود ہے کہ ان ظالموں اور مسکریں کو آخوندگی تو سزا ملے گی ہی، دنیا میں بھی نہ صرف یہ کہ ان کے ہاتھ روکنے کی بھرپور سی ہوئی چاہئے بلکہ ضرورت پیش آئے تو سورۃ البقرۃ کی آیت ۷۹ میں وارد شدہ الفاظ ﴿وَلَكُمْ فِي الْفِضَالِ حِیْوَةٌ يُبَالِي الْأَلْبَابِ ۝﴾ یعنی ”اے ہوش مندو! تمہارے لئے قصاص ہی میں زندگی ہے!“ کے مطابق ایسے لوگوں کو بھرپور سزا دینے حتیٰ کہ ان کی برکوبی کرنے سے بھی گرینہیں کیا جانا چاہئے!

حاصل کلام یہ ہے کہ بحیثیت دین اسلام کی اعلیٰ ترین قدر سماجی اور تمدنی انصاف ہے اور اقاومت دین یعنی اسلامی انقلاب کا اصل ہدف یہ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ متوازن اور معتدل نظام عدل اجتماعی (سمم آف سویل جشن) قائم کیا جائے۔

آخر میں عربی زبان کے اس مقولے کے مطابق کہ ”الْفَضْلُ مَا شَهَدَثَ بِهِ الْأَغْدَاءُ“ یعنی ”اصل فضیلت اور خوبی وہ ہے جس کا اعتراض دشمن بھی کریں“ ایک شاتم رسولؐ کی گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد اب تجھی ویلز سے ہے جس نے نبی اکرم ﷺ کی ذاتی اور ازاد و اجتماعی زندگی پر نہایت رکیک حملے کئے ہیں، لیکن اس نے بھی

اپنے آپ کو اس عدلی اجتماعی کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں شاندار ہدیہ تحسین پیش کرنے پر مجبور پایا۔ چنانچہ اپنی تالیف "A Concise History of the World" میں آنحضرت ﷺ کے خطبہ جتنے نقل کرنے کے بعد اس نے لکھا:

”انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے وعدتو دنیا میں پہلے بھی بہت کئے گئے تھے چنانچہ تھج ناصری کے یہاں بھی وہ بکثرت موجود ہیں، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی بار قائم کیا گھم (علیہ السلام) نے۔“

(نوٹ: اتنی جی ویلز کی یہ عبارت اس کتاب کے نئے ایڈیشنوں نے تازہ ایڈیشن سے حذف کر دی ہے، لیکن بڑی لا تبریزوں میں وہ پرانے ایڈیشن دستیاب ہیں جن میں یہ الفاظ موجود ہیں!) ساتھ ہی شدید حضرت کے ساتھ یہ عرض کئے بغیر نہیں رہا جا رہا کہ معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی حصول پاکستان کے اصل مقصد کی وضاحت کے لئے ہی الفاظ استعمال کئے تھے کہ: ”هم پاکستان اس نے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی شوندہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں“۔ اور ۱۹۴۰ء کے خطبہ اللہ آباد میں مصویر پاکستان علامہ محمد اقبال نے بھی اپنی اس پیشگوئی کے ساتھ کہ ”ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں پر مشتمل ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام تقدیر الہی ہے“، یہی فرمایا تھا کہ ”اگر ایسا ہو گی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کے چہرہ روشن پر جو پردے عرب ملوکیت کے دور میں پڑ گئے تھے انہیں ہنا کہ اسلام کا اصل روئے انور دنیا کو دکھا سکیں!“...

لیکن افسوس صد افسوس، کہ قیام پاکستان کے نصف صدی بعد بھی ہنوز روز اول والا معاملہ ہے اور اس سمت میں کوئی پیش قدی نہیں ہو سکی... کاش! اے کاش! کہ یہ ”کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے رائی کو!“ کے مصدق ملت اسلامیہ پاکستان اب بھی اپنے اصل ہدف کی طرف بڑھنے کا عزم مصمم کر لے... آمین! وَمَا ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ!

پاکستان میں سماجی انصاف کا اتوالین تقاضا ایک نیا اور منصفانہ بندوبست اراضی

جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، سماجی انصاف کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کے متعدد پہلو ہیں؛ جن کے اپنے اپنے جدا گانہ تقاضے ہیں۔

مثلاً خالص سماجی اور معاشرتی سطح پر انصاف کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ تمام انسانوں کو پیدائشی طور پر مساوی تسلیم کیا جائے اور ان کے مابین اونچی نیچی کا کوئی فرق اور اعلیٰ وادی کا کوئی انتیاز ان چیزوں کی بنیاد پر نہ ہو جو انہیں پیدائشی طور پر ملتی ہیں، لہذا ان کے ضمن میں کسی انتخاب و اختیار یا کسب و سعی کا سوال نہیں ہوتا، جیسے نسل، رنگ اور جنس۔ گویا انسانوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت اور درجہ بندی صرف ان امور کی بنیاد پر ہو سکتی ہے جن میں ان کے کسب و اختیار اور سعی و جہد کو دخل حاصل ہے، جیسے نظریات و عقائد یا سیرت و کردار یا علم و ہنر وغیرہ۔ پھر یہ درجہ بندی بھی خالص انتظامی حیثیت کی حامل ہو گی؛ شرف انسانیت کو پوری نوع انسانی کی مشترک اور مساویانہ متاع کی حیثیت حاصل رہے گی، اور اس اعتبار سے تمام انسان ہر صورت میں بالکل مساوی اور برابر متصور ہوں گے!

اسی طرح سیاسی سطح پر سماجی انصاف کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو بنیادی طور پر آزاد تسلیم کیا جائے۔ جیسے کہ امیر المؤمنین اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کے فاتح اور گورنر حضرت سعد ابن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کو مکان کے آگے ڈیوڑھی بنانے اور دربان کھڑا کرنے پر سرزنش کے طور پر تحریر فرمایا تھا: ”اے سعد! لوگوں کو ان کی ماوں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنایا؟“ — پھر اسی اصول کا ایک منطقی تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ افراد کی آزادی پر صرف وہ

قد غنیں اور پابندیاں عائد کی جاسکتی ہیں جو یا تو ان کے خالق اور مالک نے عائد کی ہوں یا ان کے طے کرنے میں ان کی اپنی رائے اور مشورے کو بھی دخل حاصل ہو۔ اور اس طرح ”حق خود اختیاری“ کا تقاضا پورا ہو جائے! الفرض سیاسی سطح پر سماجی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ”تمیز بندہ و آقاد فساد آدمیت ہے!“ کے مطابق انسانوں کے مابین حاکم و حکوم اور قرآن حکیم کی اصطلاح میں ”مستکرمین“ اور ”مستضعفین“ کی تقسیم و تفریق باقی نہ رہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے کامل مساوات قائم ہو جائے اور حدیث نبوی ﷺ کے الفاظ کے مطابق ”سب انسان اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔“

سماجی انصاف کے یہ دونوں پہلو جو اور پر بیان ہوئے، نہایت اہم ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل بنیادی حیثیت اور اساسی اہمیت ان عی کو حاصل ہے۔ مزید برآں ”مساوات“ کے لفظ کا صحیح اور کامل اطلاق بھی صرف ان عی دونوں سطحوں پر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ عہد حاضر میں ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی ہے اور مشین کی ایجاد کے بعد سماجی انصاف کے ضمن میں اؤلين اہمیت معاشری عدل اور اقتصادی انصاف کو حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ تاریخ انسانی کے موجودہ دور کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصلاحیات اور اقتصادیات کا ذور ہے اور عہد حاضر کا انسان فی الواقع ”معاشری حیوان“ بلکہ صحیح تر الفاظ میں مشین کے مانند صرف ایک ”ذریعہ پیداوار“ بن کر رہ گیا ہے۔ یہاں تک کہ آج عظیم ترین سلطنتوں اور ”سپر پاورز“ کا درجہ رکھنے والی حکومتوں کی بلند ترین سطح کی پالیسیاں بھی بنیادی طور پر معاشری مفادات اور اقتصادی مصلحتوں عی کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں۔ لہذا عہد حاضر میں سماجی انصاف کا اؤلين اور اہم ترین تقاضا معاشری عدل اور اقتصادی انصاف ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی معاشرے میں معاشری عدل و قحط کا فتدان ہو اور اقتصادی میدان میں ظلم اور استھان کی بھی گرم ہو، اور انسان قرآن کی اصطلاح میں ”مترفین“ اور ”محرومین“ کے طبقات میں تقسیم ہو کر رہ گئے ہوں تو وہاں خواہ ”حریت، اخوت اور

مساوات" کے کتنے ہی راگ الائپے جائیں یا وعظ کہئے جائیں، اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر جمہوریت کے کیسے ہی سو انگرچا لئے جائیں، حقیقت کے اعتبار سے وہاں کا پورا جمائی نظام "مراعات یافتہ طبقات کی آمریت" کی صورت اختیار کر لے گا اور سماجی و معاشرتی اور سیاسی و ریاستی انصاف کے تمام دعوے باطل اور کھوکھلے قرار پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمان حقیقت علامہ اقبال مرحوم نے مغربی جمہوریت کا تجویز یا پوسٹ مارٹم ان تکیے ہی نہیں تلخ الفاظ میں کیا ہے۔

تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام
چہرہ روشن، اندروں چنگیز سے تاریک تر!

اور ۔

دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری!
اور واقعہ یہ ہے کہ یہ الفاظ نہ مخفی لفاظی کے مظہر ہیں نہ مبالغہ آرائی کے بلکہ ۔
اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن
جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا!

کے مصدق صدقی صدقی حقیقت بینی اور صدق بینی پرمی ہیں۔ اس لئے کہ وہاں سرمایہ دارانہ معیشت اور سود جوئے اور شے پرمی اقتصادی نظام نے کروڑ پتی اور ارب پتی سرمایہ داروں کا ایک محدود طبقہ پیدا کر دیا ہے اور ملکی سیاست ان کی زرخرید لونڈی بن کر رہ گئی ہے۔ یا بالفاظ دیگر اس نے اس محدود طبقے کے مشغلوں اور فٹ بال یا والی بال کے سے کھیل کی صورت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ یہ وہ کمروہ اور گھناؤنی حقیقت ہے جس پر "بنیادی انسانی حقوق" اور "حقوق شہریت" کا رنگ و رونگ مل دیا گیا ہے اور حریت فکر و عمل، آزادی اظہار رائے اور بالغ رائے دہی پرمی "جمہوریت" کے حسین نقش و نگار بنادیئے گئے ہیں!

چنانچہ اسی گندم نمائی اور جو فروشی کا رذ عمل تھا جو کیونزم کی صورت میں ظاہر ہوا۔

لیکن چونکہ اس نے ”رِ عمل“ کی فطری انہاپندی کے جوش میں انفرادی ملکیت کی کامل نفی کر دی جس سے انسان کی حیوانی جبلت کے ایک اہم تقاضے کی نفی ہو گئی، لہذا وہ بہت جلد ناکام ہو کر جمع ”خوش درخشد“ و لعلہ ”مستغسل بود!“ کی نمایاں مثال بن کر رہ گیا۔ اس لئے کر شیخ سعدیؒ کے اس قول کے مطابق کہ ۔

”آدمی زادہ طرفہ معجون است

از فرشتہ سرثتہ وز حیوان!“

انسانی شخصیت میں جہاں ایک فرشتہ خصلت روحاںی عنصر بھی شامل ہے، وہاں جملہ حیوانی جبلتوں کا حامل ”حیوان کامل“ بھی موجود ہے، جس کے کسی اساسی تقاضے کی کلی نفی فطرت سے جنگ کے مترادف ہے، جس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں! بہر حال کمیوززم کی اس نکست کے نتیجے میں اس وقت مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریت کا عفریت فاتحانہ انداز کی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ”نیورولڈ آرڈر“ کی صورت میں عالمی غلبے کے ذریعے پورے عالم انسانی کو اپنے استھانی جاں میں جکڑنے کے لئے فیصلہ کن اقدام کے لئے پر قول رہا ہے! اور اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ بالآخر تو ”جاءَ الْحُقُوقُ وَ زَهْقُ الْأَسْاطِيلُ“ کی الہی تقدیر اور خدائی فیصلے ہی کاظہ ہو گا اور تمام روئے ارضی پر ”خلافت علیٰ متهماج الدبّة“ کا نظامِ عدل و قسط ہی قائم ہو گا، تاہم فی الوقت پوری دنیا میں ایسی کوئی طاقت نظر نہیں آ رہی جو اس شیطانی منصوبے کی راہ میں فیصلہ کن طور پر مزاحم ہو سکے۔ لیکن چونکہ علامہ اقبال کی ”اطلاع“ کے مطابق تواب سے نصف صدی قبل ہی ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ کی قرارداد یہ تھی کہ ۔

جانتا ہے جس پر روشن باطنِ ایام ہے مزدکیت فتنۃ فردا نہیں، اسلام ہے! لہذا اس کے باوجود کہ ابھی پوری زمین کے کسی ایک انجوں رقبے پر بھی کہیں اسلام کا نظامِ عدل اجتماعی قائم نہیں ہو سکا، اور سماجی انصاف کا اسلامی تصور تا حال ”مسلمانی در کتاب“ کے مصدق ایا تو صرف طاقتی تصور و تخيیل کی زینت ہے، یا زیادہ سے زیادہ صرف لکھے ہوئے یا بولے ہوئے حروف والفاظ کی صورت میں موجود ہے، عالمی ذرائع

ابلاغ کے شیطانی آلہ ہائے نشر و اشاعت نے حفظ ماقدم کے طور پر ”اسلامک فنڈ امنفلوومن“ کی دہائی نہایت زورو شور کے ساتھ دے رکھی ہے جس کے متوقع یا ”قابل حذر“، مراکز کی فہرست میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے! (اور اگرچہ پاکستان کے عام انتخابات کے نتائج سے عالمی شیطانی قوتوں کو کم از کم وقق طور پر کچھ اطمینان حاصل ہو گیا ہے، تاہم جو لوگ ”باطن ایام“ پر نگاہ رکھتے ہیں، اور ع ”سرمه ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف!“ کے مصدق قرآن حکیم اور احادیث رسول اللہ ﷺ کی دو آنکھوں سے حقائق باطنی کو دیکھنے کی صلاحیت سے بہرہ در ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ”خلافت علیٰ منہاج النبوة“ کی صورت میں اسلام کے نظامِ عدل اجتماعی یعنی سماجی انصاف کے کامل اور متوازن نظام کے قیام کا نقطہ آغاز بننے کی سعادت ان شاء اللہ اسی سلطنت خداداد پاکستان اور اس سے متعلق سرز میں افغانستان کو حاصل ہو گی جسے ذور نبوی میں خداوند کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ واللہ اعلم !!)

بہر حال اس عالمی تناظر کے پیش نظر اور اس زمان و مکان کے فریم و رک کے پس منظر میں پاکستان کے معروضی حالات کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا جائے تو یہ حقیقت کبریٰ فوری طور پر اظہر من الشتمس کی طرح سامنے آتی ہے کہ اگرچہ مغربی سرمایہ دارانہ معيشت اور سود جوئے اور سٹے کے تانے بانے والا مغربی اقتصادی نظام بھی ہمارے ملک میں بدترین اور مکروہ ترین صورت میں رانج ہے، جس کے نتیجے میں یہاں بھی چند ہزار خاندان ایسے وجود میں آچکے ہیں جن پر قرآنی اصطلاح ”مترفين“ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۶ و ۲۷ کے مطابق فقہ و فنور اسراف و تبذیر اور عیاشی و غاشی کی صورت میں اپنا روایتی کردار ”باصن وجہہ“ ادا کر رہے ہیں (یعنی: ”جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے مترفین کو چھوٹ دے دیتے ہیں کہ اس میں فقہ و فنور کا بازار گرم کر دیں۔ اس کے نتیجے میں وہ بستی اللہ کے قانونی عذاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ ہم اسے نیست و نابود کر دیتے ہیں!“) اور ”یقیناً محض نام و نمود اور نمائش کے لئے دولت کو اڑانے والے شیطانوں کے بھائی

ہیں!“)۔ تاہم کوآ پر یوں سکینڈ لوں اور دیگر مالیاتی اداروں کی لوٹ کھوٹ سے قطع نظر، مجموعی نسبت و تناسب کے اعتبار سے تا حال پاکستانی معاشرے میں سرمایہ داران طرزِ استحصال کے مقابلے میں زمیندارانہ ظلم و جور اور جاگیردارانہ زراعت اور مزارعت کے ”طریق واردات“ سے ہونے والے جبر و استحصال کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ لہذا یہاں کسی ”سماجی انصاف“ کا کوئی تصور تک نہیں کیا جا سکتا جب تک جاگیرداری اور زمین داری کے موجودہ نظام کو ختم کر کے ایک بالکل نئے اور منصفانہ بندوبست اراضی کی صورت پیدا نہ کی جائے۔ اس لئے کہ جب تک یہ نظام موجود ہے اور ستر پچھر فیصد انسان جاگیرداروں و ذریوں بڑے زمین داروں اور قبائلی سرداروں کے زیر لگن ہیں دستورِ مملکت میں درج حقوق شہریت بالکل بے معنی ہیں (اس لئے کہ ان سے بالفعل صرف بڑے شہروں میں آباد اقل قلیل اقلیت ہی فائدہ اٹھا سکتی ہے!) اور نام نہاد بالغ را ہے وہی کی اساس پر خواہ کتنے ہی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کا ڈھونگ رچالیا جائے ان پرمنی جمہوریت فی الحقیقت جاگیرداروں کی آمریت کے سوا کچھ نہیں ہوگی!

چنانچہ یہ اسی عربیاں حقیقت کا ادراک و اعتراف تھا جس کے نتیجے میں یہاں دو بار نام نہاد ”زریعی اصلاحات“ کا ڈول ڈالا گیا۔ لیکن چونکہ ”قوت کا اصل سرچشمہ“ جاگیرداری تھے اور ظاہر ہے کہ ان سے یہ موقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اسی شاخ کو کاث ڈالیں گے جس پر ان کا اپنا آشیانہ اور ان کے مفادات و مراعات کا کامل دار و مدار ہے۔ لہذا دونوں بار کی نام نہاد ”اصلاحات“ سنار کی کھٹ کھٹ سے زیادہ ثابت نہیں ہوئیں، چنانچہ جاگیردارانہ اور زمیندارانہ استحصالی نظام علیٰ حالہ اور جوں کا توں قائم ہے، جس کے نتیجے میں ع ”ایکیشن، ممبری، کری، صدارت“ کا پورا سلسلہ صرف ایک سرمایہ دار خاندان کے علاوہ کلیتہ جاگیرداروں و ذریوں اور قبائلی سرداروں کا میوزیکل چیزیز کا کھیل بنا ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ عوام کے ہاتھوں میں ”لوٹ، نام کی ایک شے موجود ہے درحقیقت اور فی الاصل ان کی حیثیت وہی ہے جو میر کے اس شعر میں بیان

ہوئی کہ۔

ناق ہم مجبوروں پر یہ تھت ہے مختاری کی
جو چاہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا!

پاکستان کی چھیالیں سالہ تاریخ کے دوران میں تین اشخاص ایسے برسر اقتدار آئے جو اگر چاہتے تو پاکستانی معاشرے سے اس لعنت کا خاتمہ کر سکتے تھے، اس لئے کہ وہ فی الواقع اس پوزیشن میں تھے کہ اگر دل سے چاہتے تو ظلم و احتصال کے اس مکروہ ترین نظام کی جڑوں پر کاری وار کر کے سماجی انصاف کی راہ ہموار کر دیتے۔ ان میں سے دو تو فوجی حکمران تھے، یعنی مرحوم صدر ایوب خان اور مرحوم صدر ضیاء الحق، جن کے لئے اس میدان میں کوئی فیصلہ کن اقدام اس اعتبار سے بھی آسان تھا کہ فوجی حکمرانوں کے پاس اختیارات نہایت وسیع، بلکہ بعض اوقات ”لامحدود“ ہوتے ہیں، اور ذائقی طور پر اس لئے مزید آسان تر تھا کہ وہ دونوں نہ جاگیردار تھے نہ بڑے زمین دار اور تیرے مرحوم ذو الفقار علی بھٹو تھے جو اگرچہ خود بڑے جاگیردار تھے لیکن ایک ایسی عوایی تحریک کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے تھے جو سو شلزم کے نفرے کی بنیاد پر چالائی گئی تھی۔ مزید برآں، ان کے اقتدار کا اصل ذریعہ ”مارشل لاء ایڈمنیستریٹر“ ہی کی حیثیت سے شروع ہوا تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ تینوں اس معاملے میں کسی جرأت رندانے سے کام نہیں لے سکے۔

ان میں سے جہاں تک سابق صدر ایوب خان کا تعلق ہے، ان کے دور میں جو زرعی اصلاحات ہوئیں ان سے جاگیردارانہ اور زمیندارانہ احتصال کو تو کوئی نمایاں ضعف نہیں پہنچا، البتہ ملک و قوم کی بھی خواہی میں انہوں نے معاشرے کو صنعتی ترقی کی جس راہ پر ڈالا وہ چونکہ مغرب کی سرمایہ دارانہ معيشت ہی کی نقلی کی حیثیت رکھتی تھی لہذا اس سے جاگیردارانہ ظلم و جور پر مسترد سو، جوئے اور شے پر منی سرمایہ دارانہ احتصال کا اضافہ ہو گیا۔

البتہ ایوب خان مرحوم کے مقابلے میں ضیاء الحق مرحوم کا معاملہ اس اعتبار سے

زیادہ قابل افسوس ہے کہ انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ ﷺ کے عروج کے موقع پر زمام حکومت ہاتھ میں لی تھی۔ چنانچہ اس وقت مسلمانانِ پاکستان کا دینی و مذہبی جذبہ تحریک پاکستان کے آخری ایام کے مقابلوں میں بھی کہیں زیادہ قوی تھا۔ اس طرح گویا انہیں تاریخ نے ایک عظیم موقع عطا کیا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے مقام اور مرتبے تک رسائی حاصل کر لیتے۔ اور یاد ہو گا کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے، جنہیں پانچواں خلیفہ راشد تسلیم کیا جاتا ہے، عنان خلافت ہاتھ میں لیتے ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ ان کے پیش رو حکمرانوں نے جو جاگیریں اپنے رشتہداروں یا خدمت گاروں کو عطا کی تھیں ان سب کی دستاویزات منگوا کر پھاڑ ڈالیں اور اس طرح اس جاگیردارانہ نظام کی جڑیں ایک بار توبالکل ہی کاٹ ڈالیں جو خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اس ڈورِ لوکیت میں جڑ پکڑنے لگا تھا جسے نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث مبارک (احمد بن حنبل عن نعیان بن بشیر) میں ”کاٹ کھانے والی“ یعنی ظالم و جابر حکومت سے تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ مرحوم جزل ضیاء الحق پاکستان کے موجودہ جاگیردارانہ نظام کی جڑیں تو کیا کانتے، میری اس تجویز پر بھی عمل نہ کر سکے (جو میں نے ان کی مجلس شوریٰ میں پیش کی تھی) کہ جید علماء دین اور ماہرین بندوبست اراضی کا ایک کمیشن قائم کیا جائے جو پاکستان کے موجودہ نظام اراضی پر تعمیقی اور تحقیقی نظر ڈال کر شریعت اسلامی کے اصل مقاصد اور روح عصر کے اہم تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لئے ایک ایسا ”نیا بندوبست اراضی“ تجویز کرے جس سے ملک و قوم کو سماجی انصاف سے ہمکنار کیا جاسکے!

اسی طرح ذوالفقار علی ہشتم رحموم کو بھی تاریخ نے ایک عظیم موقع عطا فرمایا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو پاکستان کے ماؤنٹے نگل بن سکتے تھے۔ اس لئے کہ انہوں نے اسلامی سو شلزم کاغذ کر عوام کو اپنے گرد جمع کیا تھا۔ اور اگرچہ مذہبی جماعتوں کی اکثریت نے ان کی خلافت کی تھی، لیکن ایک اہم اور موثر و منظم مذہبی جماعت یعنی جمیعت علماء اسلام نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا۔ (واضح رہے کہ اُس وقت جمیعت علماء اسلام آج

کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقت و را اور نسبتاً زیادہ وسیع اور عیق سیاسی اثر و رسوخ کی حامل تھی!) اور ان سطور کے حقیر و عاجز راقم نے بھی "بیانق" کے ادارتی صفات میں ان لوگوں کی نعمت کرتے ہوئے جو "اسلامی جمہوریت" کے تودل و جان سے قائل ہی نہیں فدائی تھے، لیکن "اسلامی سو شلزم" کو فخر قرار دیتے تھے، مفصل تحریریں شائع کی تھیں کہ اگرچہ اسلامی نظام بجائے خود ایک حیاتیاتی وحدت ہے جس میں کسی دوسرے ازم کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس کی اپنی جمہوریت اور شورائیت اور اسی طرح نظام عدل معاشری ہے، تاہم اگر اسلامی جمہوریت کی اصطلاح درست ہے تو یقیناً اسلامی سو شلزم کی اصطلاح بھی صحیح اور مطابق اسلام ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ذوالقدر علی بھٹو بھی اپنی جا گیردارانہ کھان یا خول سے باہر نہ آسکے۔ چنانچہ انہوں نے طوں اور کارخانوں، یہاں تک کہ آئے اور چاول کے چھوٹے چھوٹے صحنی یونٹوں کو تو نیشاں لائز کیا، لیکن زمین کو "قومیانے" کی ہمت نہ کر سکے جو ہماری قومی میشیت کی اصل اساس اور ہمارے معاشرے میں ظلم و جور اور جبرا و احتصال کی سب سے بڑی بنیاد ہے!

بہر حال آج (۱) جبکہ پاکستانی سیاست کی گاڑی کے دونوں پہنچے بھی کسی حد تک روایتی پڑی پر چڑھ گئے ہیں، چنانچہ ایک جانب حکومت بھی خاصی مستحکم ہے تو دوسری جانب اپوزیشن بھی خاصی مضبوط ہے، مزید برآں ایک جانب ذوالقدر علی بھٹو کی بیٹی جو اپنے والد کی نظریاتی و راثت کی دعوے دار ہے، وزیر اعظم ہے، تو دوسری جانب ایک ایسا شخص صدرِ مملکت کے عہدے پر فائز ہے جو نہ صرف یہ کہ عوامی سیاست کی تختیاں جھیل کر، اور سیاسی وابستگی میں پائیداری اور استقلال کا ثبوت دے کر اس مقام تک پہنچا ہے، بلکہ شرافت اور لیاقت کے ساتھ ساتھ ذاتی تیکی اور سادگی ہی نہیں، مشرقی اور مذہبی مزاج کے حامل ہونے کی شہرت رکھتا ہے، یہ پھر ایک سنہری موقع ہے کہ پاکستانی معاشرے سے جبر، ظلم اور احتصال کی سب سے بڑی بنیاد کو منہدم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ اور جا گیرداری اور زمینداری کے موجودہ نظام کا ایک

(۱) واضح رہے کہ یہ تحریر ادا خر ۱۹۹۳ء کی ہے۔

جانب دین و شریعت کے بنیادی مقاصد اور اصل اہداف کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے کہ دین کے اعتبار سے حق و باطل اور شریعت اسلامی کی رو سے جائز و ناجائز میں صحیح امتیاز کیا جائے کے، اور دوسری جانب سماجی انصاف کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی غور کیا جائے کہ کون سارا سنت عوام کی بہبود اور ملک و قوم کی خوشحالی، مغبوطی اور ترقی کے نقطہ نگاہ سے صحیح اور مفید ہے اور کون سا غلط اور مضر — اور پھر کیا عجب کہ ہمیں یہ دونوں تقاضے تحد اور سمجھانظر آئیں۔ اس لئے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اگرچہ افراد کی سطح پر اس کے زدوں یک اصل نصب الحین اور مقصد اعلیٰ اللہ کی رضا اور آخری فلاح ہے، لیکن دنیا میں اس کا اصل ہدف عدل و قسط کے نظام کا قیام ہے۔ (جس کی مفصل وضاحت صفحاتِ گزشتہ میں ہو چکی ہے!)

اس ضمن میں ایک عملی مشکل ڈور ملوکیت میں پروان چڑھنے والی نقہ کے بعض فتاویٰ کی صورت میں بھی موجود ہے، جس کا ایک اہم مظہر پر یہ کوثر کے شریعت امپلیکٹ فٹ کے ایک فیصلہ کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ چنانچہ اس کے حل کے لئے بائمیں بازوں کے ہمارے بعض دانشور بھی مارکس اور انجلز کے ”عمرانی اکشافات“ کا سہارا لیتے ہیں (روں میں کیونزم کی موت واقع ہو جانے کے بعد بھی ان حضرات کی یہ ”وفاداری بشرط استواری“ واقعہ قابل داد ہے!) اور کبھی علامہ اقبال کے اشعار اور ڈاکٹر علی شریعت کے افکار کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ —

”خوشنہ آں باشد مسلمانش کنی
کوئی ششیر قرآنش کنی!“

کے مصدق اس کا کامل حل ”مشیر قرآنی“ ہی کے حوالے سے دورِ خلافت راشدہ کے عہد فاروقیٰ کے ایک اجتہاد و اجماع میں موجود ہے، جس پر مفصل گفتگو ان شاء اللہ آئندہ صفحات میں ہو گی!

مسئلہ ملکیت زمین

یہ بات تو پاکستان کا ہر عاقل و بالغ شہری اور ہر صاحب دانش و بیش انسان جانتا ہے کہ جب تک یہاں سے جا گیرداری اور بڑی زمینداری کا خاتمہ نہیں ہوتا نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ یہاں عوای فلاح و بہبود کا مقصود حاصل ہو سکتا ہے اور نہ یہ حقیقی معنی میں عوای سیاست جڑ پکڑ سکتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جا گیرداروں سے ان کی جا گیریں اور بڑے زمینداروں سے ان کی فاضل زمینیں کس اصول کے تحت واپسی میں جائیں؟ اس لئے کہ خواہ کسی اور معاٹے میں یہاں جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا سوال نہ اٹھایا جاتا ہو اور شریعت اسلامی کے ادامر و نواعی کو پوری شان استفقاء کے ساتھ نظر انداز کر دیا جاتا ہو جب بھی جا گیرداری اور زمینداری کا مسئلہ سامنے آتا ہے فوراً شریعت کی ڈھال سامنے کر دی جاتی ہے اور اصول ملکیت اور اس کے جملہ لوازم کے ضمن میں اسلام کے خالص فقیہی تصورات کی پناہ لے لی جاتی ہے۔

چنانچہ بعض لوگوں کو یہ تک کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اصل میں پاکستان بنایا عی نوابوں، ڈیروں، جا گیرداروں اور بڑے زمینداروں نے تھا، اور ان کے پیش نظر قیام پاکستان سے صرف اپنے مفادات اور اپنی مراعات کے تحفظ کا مقصود تھا جو تھا حال باحسن وجوہ پورا ہو رہا ہے۔ اس لئے کہ انہیں نیشنل کا گرلیں ایک جانب خود بھی عوای جماعت تھی، اور دوسری جانب اس کی قیادت پر سو شلزم کے نظریات اور تصورات کا غالبہ تھا، جبکہ مسلم لیگ بنیادی طور پر نوابوں اور نواب زادوں اور ”سروں“ اور خان بہادروں کی جماعت تھی؛ جنہوں نے اسلام کے نظرے کو صرف اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر استعمال کیا۔ چنانچہ نتیجہ بھی عملی طور پر یہی نکلا کہ بھارت میں زمینداری آزادی کے فوراً بعد ختم کر دی گئی، جبکہ پاکستان میں ثبوذ لارڈ زتا حال کوس لمن الملک

بخار ہے ہیں۔

تو اگرچہ ان لوگوں کا یہ نظریہ تا حال تو ”مطابق واقعہ“ ہونے کی بنا پر بظاہر بہت درست نظر آتا ہے، لیکن اس کی جزا یک تو اس حقیقت واقعی سے کٹ جاتی ہے کہ نہ مصور و مفکروں مجوز پاکستان علامہ اقبال جاگیر دار یا زمیندار تھے نہ ہی بانی و معمار و مؤسس پاکستان محمد علی جناح اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے دوسرے ان شاء اللہ مستقبل ثابت کر دے گا کہ پاکستان کا قیام مشیت الہی میں پوری نوع انسانی کے سامنے اسلام کے سماں اضاف، اور عدل و قسط پر بتنی اجتماعی نظام کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لئے عمل میں آیا ہے، اور ان شاء اللہ جلد ہی اس ”راہی“ کو اپنی ”بھولی ہوئی منزل“ یاد آجائے گی اور یہ ”بھٹکا ہوا آہو“، ”بالا خر“ سوئے حرم، روانہ ہو جائے گا! اللہم آمين!

تاہم اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ سوال جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے، پہلے بھی محض خیالی یا وہی نہیں تھا، بلکہ واقعی اور حقیقی تھا، اور ۱۹۹۰ء میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت امیلیٹ بخش نے جو فیصلہ قربلاش وقف وغیرہ بنا چیف لینڈ کمشنز پنجاب وغیرہ نامی اوقیل میں دیا تھا، اس نے تو اس سوال کو ہزار گنہا زیادہ اہم بنا دیا ہے اور اگر اس مشکل کا کوئی حل ملاش نہیں کیا جاتا تو اس سے آئندہ کسی بھی نوعیت کی ادنی سے ادنی زرعی اصلاحات کا راستہ بھی ہمیشہ کے لئے مسدود ہو جائے گا۔

تو اگرچہ اس سوال کا جواب دینے اور اس مشکل کو حل کرنے کی اصل ذمہ داری سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے ان نیم نہ بھی اور شیم سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنے انتخابی منشوروں میں زمین کی ملکیت کو محدود کر دینا شامل کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ان جماعتوں کی جانب سے تا حال اس سوال کا کوئی جواب اور اس مشکل کا کوئی حل پیش نہیں کیا گیا، جس سے گمان ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ہرگز سمجھدہ نہیں ہیں، اور ان کے پیش نظر بھی سوائے سیاسی نعرہ باز بھی کے اور کچھ نہیں ہے! واللہ اعلم!!

بنابریں راقم الحروف اس بحث کا آغاز اس لئے کر رہا ہے کہ اس پر سمجھدہ غور و فکر

اور گفت و شنید کا آغاز ہو اور خصوصاً وہ اہل علم اور رجال دین اس پر پوری توجہ مرکوز کریں جو اس ملک میں نہ صرف واقعی طور پر اسلام کی سر بلندی اور دینِ حق کے غلبہ و قیام کے آرزو مند ہوں بلکہ اس کے لئے اپنی ذہن و فکر اور سیمی عمل کی جملہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر بھی آمادہ ہوں! بالخصوص ایسے اصحاب علم و دانش آگے بڑھیں جو کتاب و سنت کے نصوص کی پابندی کے عزمِ حسم کے ساتھ ساتھ صرف سلف کی اجتہادی آراء کے مقلد جامد بن کرنہ رہ جائیں بلکہ شریعت کے اصل مقاصد و اہداف کو بھی پیش نظر رکھیں اور جہد و جہاد کے جذبے سے سرشار ہونے کے ساتھ ساتھ قیاس و اجتہاد اور اس کے ضمن میں مصالح مرسلہ اور مفہود عامہ کو بھی مخوض رکھیں۔ اس لئے کہ حکمت قرآنی کا جواہرِ اصول سورۃ الرعد کی آیت ۷۱ امیں یہاں ہوا ہے، اس کے مطابق دوام اور بقاء صرف ان عقیقیوں کو حاصل ہوتا ہے "جو لوگوں کے لئے مفید ہوں!" اور اس کے بغیر تمام وعظ و نصیحت اور ساری سیاسی نفرہ بازی زبان کا پھاگ اور منہ کا جھاگ بن کر رہ جاتی ہے جس کا مقدار عقیقی "سو کھ کر ختم ہو جانا" ہے!^(۱)

اس تہذید کے بعد اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہوئے اولین حقیقت جو پیش نظر رہنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ — اگرچہ قانونی اور فقہی سطح پر اسلام میں انسانی ملکیت کا تصور یقیناً موجود ہے، چنانچہ اسی پر وراشت "زکوٰۃ" اور دوسرے صدقات و اجر و تاثر وغیرہ کے جملہ فقہی احکام مترب ہوتے ہیں، تاہم واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی اساسی اور ایمانی تعلیمات کے مطابق یہ حق ملکیت اتنا مطلق، اتنا مقدس اور عرفی عالم میں اتنا "گماڑھا" نہیں ہے جتنا کہ سرمایہ دارانہ معیشت کے علمبردار خیال کرتے ہیں۔ بلکہ اس کی اصل حیثیت صرف "حق و منع تصرف" کی ہے، یعنی کسی شے کے استعمال کا حق کسی ایک شخص میں کو حاصل ہو اور باقی سب کے لئے منوع ہو جائے!

چنانچہ قرآن حکیم کی اساسی تعلیمات کے مطابق کوئی انسان کسی دوسرا شے تو کیا خود اپنے جسم و جان کا بھی مالک نہیں ہے بلکہ اس کے وجود سمیت کائنات کی ہر شے کا

(۱) هَلَّا نَزَّلْنَا فِي الْكُتبِ بِحُكْمَهٖ وَلَمَّا نَأْتَنَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَنْتَكُثُ فِي الْأَرْضِ ط^۲ (الرعد: ۱۷)

مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جسم و جان، زمین و مکان، مال و منال اور آل و اولاد سمیت ہر شے جو کسی بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی ملکیت کی نہیں بلکہ اس کے پاس اللہ کی ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتی ہے۔ بقول شیخ سعدی ۔

ایں امانت چند روزہ نزدِ ماست

درحقیقتِ مالک ہر شے خدا سست

لہذا ان اشیاء کے استعمال کا حق اور ان میں تصرف کا اختیار تو انسان کو حاصل ہے لیکن صرف ان قوانین و قواعد کے مطابق اور ان حدود و قیود کے اندر اندر جو مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ نے محسن فرمادیے ہیں۔

جب کہ اس کے عکس ”سرمایہ دارانہ“ ذہنیت کی مکمل عکاسی قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے اس قول کی صورت میں کردی گئی ہے: ﴿أَنْ تُفْعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ ”کہ ہم تصرف کریں اپنے اموال میں جیسے بھی ہم چاہیں!“ (ہود: ۸۷) بہر حال اسلام اس نوع کے مطلق اور مقدس حق ملکیت کا ہرگز قال نہیں اس کے نزدیک انسانوں کو جو حق ملکیت حاصل ہے وہ مقید اور محدود ہے۔

پھر خاص طور پر زمین کے ضمن میں یہ معاملہ ایک قدم مرید آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور۔۔۔ اگرچہ ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ یعنی ”یقیناً زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے!“ (الاعراف: ۱۲۸) اور ﴿هُوَ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْإِنْسَانِ﴾ یعنی ”زمین کو اس نے بچھا دیا تمام تخلوقات کے لئے!“ (آل عمران: ۱۰) اور ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ یعنی ”وہی ہے جس نے ہنایا تمہارے لئے سب کچھ جو زمین میں ہے!“ (النقرۃ: ۲۹) اور اس مضمون کی دوسری بے شمار آیات سے زمین کی ذاتی ملکیت کے خلاف کوئی قانونی اور فقہی دلیل تو نہیں اخذ کی جا سکتی، تاہم ایک رہنمای اصول ضرور حاصل ہوتا ہے جس کی نہایت خوبصورت تجیہ کی ہے علامہ اقبال مرحم نے۔ یعنی ۔

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب

پا دشا ہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین!

اور

دہ خدا یا یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں!
تیرے آباء کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں!

اور

رزق خود را از زمیں بردن رو است!
ایں متائی بندہ و ملک خدا است!

بھی وجہ ہے کہ زمین کے بارے میں یہ شرعی ضابط سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کسی قطعہ زمین کا "مالک" اسے بے کار پڑا رہنے دے اور اس میں کاشت نہ کرے تو ایک معین عرصے کے بعد اس کا "حق ملکیت" خود بخود ختم ہو جائے گا اور زمین ضبط کر لی جائے گی۔

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نہایت حسین و لطیف نکتہ وہ ہے جو امام البند حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے بیان فرمایا ہے کہ چونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ "میرے لئے پوری زمین کو مسجد بنانا دیا گیا ہے!"^(۲) لہذا پوری زمین کو "وقف" کی حیثیت حاصل ہے اس لئے کہ مسجد وقف ہوتی ہے۔ (چنانچہ جملہ اوقاف کے مانند مسجد کے بھی صرف "متولی" ہوتے ہیں مالک کوئی نہیں ہوتا!)

تاہم ان تمام نکات سے صرف اصولی رعنائی اخذ کی جاسکتی ہے، قطعی اور قانونی جزئیات کا استنباط نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ کم از کم ہم الی پاکستان کی حد تک اس مشکل مسئلے کا مکمل حل امیر المؤمنین اور "خلفیۃ خلیفۃ الرسول ﷺ"، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اجتہاد میں موجود ہے جو آپؐ نے عراق، شام ایران اور مصر کے مفوہہ ممالک کی اراضی کے بارے میں کیا تھا اور جس پر ابتدائی روز و قدر اور بحث و نزاع کے بعد

(۲) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جَعَلَتِ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا.....)) رواه ابو داؤد والترمذی والنسائی والدارمی، عن علی بن ابی طالب و حابر بن عبد اللہ و عبد اللہ بن عمرو و عبد اللہ بن عباس و ابی هریرہ و حنیف بن الیمان و انس بن مالک و ابی امامۃ و ابی فر الفقاری (رضی اللہ عنہم)

”اجماع“، ہو گیا تھا اور جس کی بنیاد پر شریعت اسلامی میں اراضی کی دو مستقل قسمیں قرار پائیں گے، یعنی (۱) عشری جو انفرادی ملکیت میں ہوتی ہے اور جس کی پیداوار سے صرف عشری یعنی دسوال حصہ یا نصف عشری یعنی بیسوال حصہ بیت المال میں داخل ہوتا ہے۔ اور (۲) خارجی جو مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت یا بالفاظ دیگر بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے اور جس کی پیداوار میں سے کم و بیش نصف کی حد تک ”خارج“ کی صورت میں بیت المال میں داخل ہوتا ہے۔

یہ واقعہ قاضی ابو یوسف نے اپنی مشہور زمانہ تالیف ”کتاب الخراج“ میں، جو انہوں نے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی فرمائش پر تالیف فرمائی تھی، نہایت عمدہ اور منفرد تفاصیل کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔ ان مفتوحہ علاقوں کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ ان کی تمام زمینیں جملہ باشندوں سیاست ”مال غیرمت“ کی حیثیت رکھتی ہیں جنہیں اس قانون غیرمت کے مطابق جو سورۃ الانفال میں بیان ہوا ہے (آیت ۳۴)، مجاہدین میں تقسیم کر دیا جانا چاہئے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کا صرف پانچواں حصہ بیت المال کی ملکیت قرار پاتا اور باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے اور اس طرح تمام اراضی انفرادی جا کریں بن جاتیں اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین جا گیردار انسانی نظام قائم ہو جاتا، بلکہ ان ممالک کے تمام باشندے مسلمانوں کے شخصی ”غلام“ بن جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ذوقی سلیم اور فہم عیین نے اس صورت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی بناء پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ: ”حق عمر کی زبان پر بولتا ہے!“^(۳) اور ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے!“^(۴) چنانچہ ان کے انقلابی و امتحادی مزاج اور عیین اور مجہد ان فہم قرآن نے

(۳) عن أبي ذر الغفارى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

((إن الله وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ)) رواه ابو داؤد في الخراج والamarة

(۴) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ)) رواه الترمذى، باب مناقب عمر بن الخطاب

فیصلہ کیا کہ اموال غیرت کا اطلاق صرف ان اموال محفوظہ پر کیا جائے جو عین موقع جگ پر حاصل ہوں، جیسے تھیار، سامانِ رسد، اور گھوڑے اور اونٹ اور دوسرا مال موصیٰ وغیرہ، جبکہ اراضی اور دیگر اموال غیر محفوظہ کو مال "نے" قرار دیا جائے جس کا حکم سورہ الحشر کی آیات ۶ تا ۱۰ میں بیان ہوا ہے، یعنی یہ سب مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت قرار پائیں اور ان کی آمد فی عوام کی قلاع و بہود پر بھی خرچ ہو اور دفاع ملی اور دیگر امور مملکت میں بھی صرف ہو۔ بہر صورت کسی کی بھی انفرادی ملکیت قصور نہ ہو۔

اس پر شدید رذ و قدح اور بحث و نزاع کا بازار گرم ہو گیا۔ حضرت عمرؓ کی اس رائے سے اختلاف کرنے والوں میں ابتداء حضرت بلاطؓ اور ان کے بعض ساتھی تھے لیکن پھر انہیں بعض کبار صحابہ (رضی اللہ عنہم) یہاں تک کہ عشرہ بشرہ میں سے بھی دو حضرات یعنی حضرت زیبر بن العوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف (رضی اللہ عنہما) کی پُر زور حمایت اور وکالت حاصل ہو گئی۔ جبکہ دوسری جانب بھی کبار صحابہؓ ہی کی ایک بڑی جماعت جس میں عشرہ بشرہ سے بھی تین حضرات یعنی حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت طلحہ (رضی اللہ عنہم) اور ان کے علاوہ حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) جیسے عالمان کتاب و سنت بھی شامل تھے، حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق رکھتی تھی۔ اور اس نزاع کا فیصلہ بالآخر اس طرح ہوا کہ انصار مدینہ میں سے اوس اور خزرجن دنوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے پانچ پانچ اکابر صحابہؓ کی ایک مجلس تکمیل دی گئی جو زراعت کے معاملات میں واقفیت اور مہارت تامہ کے حال تھے (گویا اصطلاح جدید میں زراعت اور بندوبست اراضی کے ماہرین کا ایک کمیشن مقرر کیا گیا) جنہوں نے "بالاتفاق" حضرت عمرؓ کی تصویب کی۔ اور اس طرح گویا اس امر پر "اجماع" ہو گیا کہ جو ملک یا علاقے بزوہ مشیر تھے ہوئے ہوں ان کی اراضی کسی کی "انفرادی ملکیت" نہیں ہوں گی بلکہ بیت المال کی ملکیت یا بالفاظ دیگر مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت قرار پائیں گی، جبکہ عشرتی یعنی انفرادی ملکیت میں داخل اراضی صرف ان علاقوں کی ہوں گی جہاں کے لوگ از خود لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ہوں، جیسے

اللی یہ رب جو از خود یا مخفی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے تھے اور پھر خود جا کر نبی اکرم ﷺ کو اپنے یہاں لائے تھے۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم جمعین۔

اس ضمن میں ”کتاب الخراج“ کا حسب ذیل اقتباس بہت مفید ہے جس میں حضرت عمرؓ اور اوس و خزرج کے مذکورہ بالا دس اکابر و اشراف کی گفتگو نقل کی گئی ہے۔ وہاں میں اسی مضمون میں مذکورہ بالا دس اکابر و اشراف کی گفتگو نقل کی گئی ہے۔

”جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے اللہ کی ایسی حمد و شناکی جس کا وہ مستحق ہے اور پھر فرمایا:

”میں نے آپ حضرات کو صرف اس لئے تکلیف دی ہے کہ میرے کامیابوں پر آپ کے معاملات کی ذمہ داری ہے، اس میں آپ میرا ہاتھ مٹائیں۔ کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ آج آپ حضرات کو حق تحقیق کرنا ہو گا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے اختلاف کیا ہے اور بعض نے اتفاق۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ حضرات بہر حال وہی رائے قبول کریں جو میں نے اختیار کی ہے۔ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے جو حق بات کہتی ہے۔ خدا کی قسم! اگر میں نے کوئی بات کہی ہے جس پر میں عمل کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس سے میرا ارادہ سوائے انجامِ حق کے کچھ اور نہیں۔“

ان لوگوں نے کہا:

”امیر المؤمنین! آپ فرمائیے ہم سنیں گے (اور غور کریں گے)“

تو آپ نے فرمایا:

”آپ حضرات نے ان لوگوں کی باتیں سن لی ہیں جن کا خیال ہے کہ میں ان کی حق تلفی کر رہا ہوں۔ میں علم کے از کتاب سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اگر میں نے کوئی ایسی چیز جو ان لوگوں کا حق تھی، ان کو نہ دی ہو اور دوسروں کو دی ہو تو میں یہاں بہت بخت ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ کسری کی سرزی میں کے بعد اب کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے جو حق ہو۔ اللہ نے ان کے اموال زمینیں اور کاشتکار تھیں بطور غیمت عطا کر دیے ہیں۔ ان لوگوں کو غیمت سے جو بال ملا تھا اسے تو میں نے اس کے تحقیق میں قسم کر دیا ہے اور پانچواں حصہ نکال کر اسے اس کے تحقیق میں

مصارف میں تقسیم کر دیا ہے، بلکہ ابھی اس کی تقسیم میں مصروف ہوں۔ میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ زمینوں کو منع کا شکاروں کے سرکاری ملکیت قرار دے دوں اور اس کے کاشتکاروں پر خراج عائد کر دوں اور ان پر فی کس جزیہ مقرر کر دوں جسے وہ ادا کرتے رہیں۔ اس طرح یہ جزیہ اور خراج مسلمانوں کے لئے (ایک مستقل) ”نے“ کام کرے گا جس کی آمدنی میں فوجی، کم سن افراد اور آنے والی شلیں حصہ دار ہوں گی۔ دیکھئے! ان سرحدوں کی خلافت کے لئے بہر حال کچھ آدمی تھیں کرنے ہوں گے جو مستقل اہالی رہیں۔ یہ بڑے بڑے علاقے، جیسے شام، الجزیرہ، کوفہ، بصرہ، مصر، ان میں فوجی چھاؤ نیاں قائم رکھنا اور ان کو وظائف دیتے رہنا انگریز ہے۔ اب اگر یہ زمینیں اور ان پر محنت کرنے والے کاشتکار تقسیم کر دیجے جائیں گے تو ان لوگوں کو کہاں سے دیا جائے گا؟“

یہ سن کر سب نے کہا:

”آپ ہی کی رائے صحیح ہے۔ آپ نے جو فرمایا وہ خوب ہے، اور جو رائے قائم کی وہ بہت موزوں ہے۔ اگر ان شہروں اور سرحدوں میں اخوان نہیں رکھی جائیں گی اور ان کے لئے بطور تنخواہ کچھ مقرر نہ کیا جائے گا تو اہل کفر اپنے شہروں پر بھر سے قابض ہو جائیں گے۔“

آخر میں آپ نے فرمایا: ”اب مجھ پر معاملہ واضح ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ کون ایسا ماہر اور دانشمند ہے جو ان زمینوں کا مناسب طور پر بندوں ستر کر دے اور کاشت کاروں پر ان کی برداشت کے مطابق خراج تجویز کر دے؟“ لوگوں نے بالاتفاق عثمان بن عیینہ کا نام پیش کیا اور کہا: ”آپ ان کو اس کام کا ذمہ دار بنا کر بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صاحب فہم و بصیرت اور تحریک کارانسان ہیں۔“ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا تاخیر ان کو علاقہ سواد کی پیاس کے کام پر مقرر کر دیا۔“

(”کتاب الخراج“ ترجمہ:ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی)

خلافت، ملوکیت اور جاگیرداری

گزشتہ مباحث کا خلاصہ ہے:

(۱) اگرچہ انفرادی سلطنت پر جو بلند ترین نصب الحین اسلام انسان کو عطا کرتا ہے وہ رضائے الہی اور فلاح آخری کا حصول ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں اجتماعی سلطنت پر اسلام کا بلند ترین مقصد یا ہدف یا بالغاؤ دیگر نصب الحین سماجی انصاف اور نظامِ عدل اجتماعی کا قیام ہے!

(۲) سماجی انصاف کے ضمن میں اگرچہ اصولی طور پر معاشرتی سلطنت پر اولین اہمیت کامل انسانی مساوات اور باہمی اخت کو حاصل ہے، اور سیاسی سلطنت پر بھی میثیت حریت اور قانونی و دستوری برابری کو حاصل ہے، لیکن موجودہ دنیا میں سماجی انصاف کا اولین تقاضا جس پر باقی تمام امور کا کلی دار و مدار ہے، معاشری عدل اور کم از کم "موقع" کے اعتبار سے کامل مساوات ہے!

(۳) اگرچہ عہد حاضر میں عالمی سلطنت پر تو معاشری ظلم اور استھان کا سب سے بڑا ذریعہ سرمایہ دارانہ معیشت کا وہ عالمگیر نظام ہے جس کی اساس "سرمایہ کے سود" پر قائم ہے، لیکن پاکستان چونکہ بنیادی طور پر زرعی معیشت کا حامل ملک ہے، لہذا یہاں معاشر جبر و استبداد اور ظلم و استھان کا سب سے بڑا مظہر "زمین کے سود" پر مبنی جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام ہے جس کی نئخ نئی کے بغیر یہاں سماجی انصاف کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

(۴) دوسری خلافت راشدہ کا سیاسی نظام چونکہ اللہ کی حاکیت کے تحت اس کے فرمان بردار بندوں کی "اجتماعی خلافت" کا نظام تھا جس کی اصل اساس عدل و قسط پر قائم تھی، لہذا اگرچہ اس کے دوران وہ نازک مرحلہ بھی آیا جس پر ذرا سی غفلت یا ڈھمل

سے تاریخ انسانی کے عظیم ترین جاگیردار اسلام نظام کی بنیاد قائم ہو جاتی تھکن ع "اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار!" کے مصدق حضرت عمر فاروق "کی اجتہادی بصیرت نے تمام منورہ ممالک کی کل اراضی کو خراجی یعنی تمام مسلمانوں کی "اجتہادی ملکیت" قرار دے کر اس کا کامل سہہ باب کر دیا۔

لیکن افسوس کہ جیسے ہی خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور خلافت نے تدریجیاً ملوکیت کی صورت اختیار کرنی شروع کی، اس معاملے میں بھی زوال کا آغاز ہو گیا اور جو دروازہ حضرت عمر نے اپنی اجتہادی بصیرت اور بے مثال بہت وجرأت سے بند کیا تھا، آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جاگیرداری اور غیر حاضری زمینداری نے عالم اسلام میں قدم جمانے شروع کر دیئے۔

یہاں یہ عرض کرنے کی چند اس حاجت نہیں ہے کہ جاگیرداری اور ملوکیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہو گا کہ جیسے بعض خشات الارض (شلاں کنکھوڑا) کے سیکھروں پاؤں ہوتے ہیں ایسے ہی جاگیردار اور "لینڈ لارڈز" ملوکیت، شہنشاہیت اور "امیر میزم" کے پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلکہ غالباً اس سے بھی صحیح تمثال بر گد کے درخت کی اضافی جڑوں کی ہے کہ جیسے جیسے اس کا پھیلاوہ بڑھتا جاتا ہے اس کی شاخوں سے انسانی داڑھی کے سے انداز میں اضافی جڑیں نیچے اترنی شروع ہو جاتی ہیں جو زمین تک پہنچ کر اور اس میں قدم جما کرنا صرف اضافی جڑوں کا کام دینی ہیں جن سے زمین کی غذا بیت درخت کو حاصل ہوتی ہے بلکہ ستونوں کی صورت اختیار کر کے اضافی سہارا بھی بن جاتی ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ ملوکیت اور شہنشاہیت کا ہے کہ یہ جیسے جیسے پھلی اور پھلی شروع ہوتی ہے اپنے وفاداروں اور خدمت گزاروں کو جاگیرداری کی مندیں اور منصب عطا کر کے انہیں کاشتکاروں کے استھان کے ذریعے اپنے اقتدار کے سہاروں کی حیثیت دے دیتی ہے۔

چنانچہ یہی حادثہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو پیش آیا۔ حضرت سفید رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم ﷺ کا ایک قول مبارک امام احمد "امام ترمذی اور

امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ: ”خلافت میں برس تک رہے گی اس کے بعد طوکت کا آغاز ہو جائے گا۔“^(۵) اور امام احمد نے آنحضرت ﷺ کی ایک اور حدیث جو حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے اس میں آپ ﷺ نے اس طوکت کے ساتھ ”کاث کھانے والی“ یعنی خالم اور غاصب کی صفت کا اضافہ فرمایا ہے^(۶)۔ تو اگرچہ تاریخ اسلام میں خلافت کے پورے طور پر طوکت میں تبدیل ہونے میں تو لگ بھگ ایک صدی کا عرصہ لگا، اس لئے کہ طوکت کے اصل شاخش بانٹ پورے طور پر بنو عباس کے ذریع میں شروع ہوئے تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے آثار امیر معاویہ کے عہد حکومت ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ جس کے نتیجے میں اسلام کی تعلیمات کے ایک حصے پر پردے پڑنے کے اس عمل کا آغاز ہو گیا تھا جس کا تذکرہ ۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال نے اپنے خطبہ اللہ آباد میں ان الفاظ میں کیا تھا کہ:

”میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ تقدیر بمرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو گی۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے عرب امیریلزم کے ذریع میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کی اصل تعلیمات کی ایک عملی صورت دنیا کو دکھائیں!“

واضح رہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور خواہ اسے

”مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو

کہ نا حق خون پروانے کا ہو گا!“

کے مصدقہ قرار دیا جائے، بہر حال میری سوچی سمجھی اور پختہ رائے یہ ہے کہ ان کی

^(۵) عن سعید بن جمهان قال حدثني سفينة (رضي الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الخلافة في أمتي ثلاثة يُؤْنَى سنتهم مُلْكٌ بعده ذلك)) ثم قال لى سفينة : أَمْسِكَ خلافة ابى بكر ثم قال : وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال : امسك خلافة على ، فوجدناها ثلاثة سنّة رواه الترمذى فى الفتن ، باب ماجاء فى الخلافة رواه ابو داؤد فى السنّة ، باب فى الخلفاء .

^(۶) حدیث کے الفاظ ہیں : ((.....تَكُونُ مُلْكًا عَاصِمًا.....))

نیت پر شک کرنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر اپنے ایمان کو مٹکوک بنانے کے مترادف ہے، اس لئے کہ اگرچہ وہ نعمت کے دن ایمان لائے تھے تاہم اس کے بعد پورے اڑھائی سال تک نہ صرف یہ کہ آنحضرت ﷺ کی محبت سے فیض یاب ہوئے بلکہ ”کاتب وحی“ کی اہم اور نازک ذمہ داری تک کے الیں قرار پائے۔ بنا بریں یہ گمان کہ ان کا ترکیہ نفس اور صحیح نیت نہیں ہو پائی تھی مزکی اعظم ﷺ پر طعن کی حیثیت رکتا ہے — تاہم دوسری جانب اس حقیقت سے صرف نظر بھی نہ خالق و واقعات کے اعتبار سے ممکن ہے نہ نصوصی حدیث نبوی ﷺ کی رو سے درست ہے کہ ان کا دوڑ حکومت ڈوڑ خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے۔ اور خواہ یہ خالص ”حالات کے جبر“ اور مصالح امت ہی کے تقاضوں کے تحت ہوا ہو، بہر حال واقعہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے ایک حصے کے پردے کے پیچھے چھپ جانے یا بالفاظ دیگر اس سورج کو گہن لگ جانے کا عمل ان ہی کے ڈوڑ حکومت سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے جسے امام بخاریؓ نے ”کتاب العلم“ میں روایت کیا ہے کہ:

”حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَائِبِينَ، فَإِنَّمَا أَحَدُهُمَا فَبَشَّّهُ فِيْكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشَّهُ قُطْعَهُ هَذَا الْبَلْعُومُ“

”میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے (علم کے) دو برتن حاصل کئے۔ تو ان میں سے ایک کو تو میں نے تمہارے مابین خوب عام کر دیا ہے، لیکن اگر دوسرے کو عام کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی!“

(واضح رہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی وفات ۷۵۵ ھ یا ۵۸ ھ یا زیادہ سے زیادہ ۵۹ ھ میں گویا حضرت معاویہؓ کی وفات سے ایک سال قبل ہو گئی تھی۔) تو اگرچہ اس قول میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ دو برتن کون سے ہیں، تاہم یہ بات بادیٰ تال سمجھ میں آسکتی ہے کہ جس علم کے عام کئے جانے سے کسی کو کوئی گزندنیں پہنچ سکتا تھا لہذا اس کے عام کرنے والے کو بھی کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا، وہ تھانماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یعنی

عبدات کے مسائل یا نکاح و طلاق وغیرہ کے مسائل کا علم۔ اور جس علم سے مراعات یافتہ طبقات کے مفادات پر آج چنانچہ اس کے عام کرنے والے کی ذات کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، وہ تھا نظام حکومت اور عمالی حکومت اور زمینداری اور جاگیرداری سے متعلق اصولی اور تفصیلی ہدایات کا علم!

قصہ مختصر، جیسے ہی عالم اسلام میں ملوکیت نے جزیں جانی شروع کیں جاگیرداری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اور حضرت معاویہؓ کے انتقال کے بعد چالیس سال کے دوران اس خلافت نے اپنی جزیں جتنی کچھ پھیلائی ہوں گی اس کا اندازہ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث مبارک کے مطابق کہ:

((إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ لِيَهُوَ الْأَمْمَةَ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ))^(۱)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے اولو العزم لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو اس کے لئے اس کے دین کو ازسرنو تازہ کر دیں گے!“

پہلی صدی ہجری کے اختتام اور دوسری صدی کے آغاز پر جو مجذد و اذل (اور تاحال اعظم بھی) اس لئے کہ وہ واحد مجذد تھے جو صاحب اختیار و اقتدار بھی تھے اور جن کے ذریعے صرف علمی و فکری تجدید اور عقائد و اخلاق کی اصلاح نہیں بلکہ نظام حکومت کی اصلاح ہوئی! یعنی حضرت عمرؓ کی پوتی کے صاحزادے حضرت عمر بن عبد العزیز^(۹۹ھ تا ۱۰۱ھ) ”میتوث“ ہوئے تو انہوں نے جہاں ایک جانب اپنی ”نمودگی“ سے اظہار براءت کیا اور منصب حکومت صرف اس وقت اختیار کیا جب لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی آزادانہ مرضی سے آپ کی خلافت قبول کرتے ہیں، وہاں دوسری جانب جو اہم ترین تجدیدی کارنامہ سرانجام دیا وہ یہی تھا کہ جاگیروں کے وشیت اور دستاویزات ملکوں کو رچاک کر دیں اور اس طرح کم از کم ایک بار تو پھر نظام اسلام کو ”زمین کے سود“

(۱) عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ۔ اخرجه ابو داؤد فی الملائم، باب ما یذکر فی قرن المائة، واسناده صحيح، ورواه ايضاً الحاکم وصححه ووافقه النھی

سے پاک کر دیا۔

محترم صاحبزادہ عبدالرسول صاحب نے اپنی تالیف "تاریخ اسلام" میں اس سلسلہ میں ایک مکالمہ نقل کیا ہے کہ: "یہ حالت دیکھ کر بنو امیہ سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے ہشام (بن عبد الملک جو خوب بھی چند سال بعد حکمران ہوا) کو اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے عہد میں جو چاہیں کریں لیکن جو کام پچھلے خلفاء کر گئے ہیں انہیں اپنی حالت میں رہنے دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر ایک ہی معاملے میں تمہارے سامنے دو دستاویزات ہوں، ایک امیر معاویہ کی اور دوسری عبد الملک کی تو تم کس پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا قدیم دستاویز پر! اس پر آپ نے فرمایا کہ "میرے پاس قدیم دستاویز کتاب اللہ ہے، میں اس پر عمل پیرا ہوں!"... اور ظاہر ہے کہ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا تھا جس کی رگوں میں "خواہ صرف والدہ ماجدہ ہی کی جانب سے سکی، کسی نہ کسی درجے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بھی دوڑ رہا تھا!

تاہم حضرت عمر بن عبد العزیز کا عہد خلافت ع "خوش درخشنید و لے شعلہ مستحب" بود! " کی مثال تھا۔ ان کو زہر دے کر شہید کرنے کے بعد بنو امیہ کے بقیہ تھیں سالہ ذور حکومت اور اس کے بعد دولت بنی عباس کے دوران "عرب امیریلیزم" کے سامنے میں جا گیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا شجر خیشے خوب پھلا پھولا۔ اور اگرچہ فقہ اسلامی کے دونوں سلسلوں یعنی اصحاب حدیث اور اصحاب رائے و قیاس کے "اما مین اولین"، یعنی امام اعظم ابوحنیفہ اور امام داڑحجرت مالک بن انس نے "مزارعت" کو حرام مطلق قرار دے کر اس شجرہ خیشکی جڑ پر بھر پور تیشہ چلایا اور کاری وار کیا، اور اس کے نتیجے میں قید و بند اور زد و کوب کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن جیسے جیسے طویلت اور جا گیرداری کی جڑیں زمین میں گہری ارتقی گئیں حالات کے جرا و مر "نظریہ ضرورت" کے عمل دخل کا ظہور ہوا اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف نے جہاں "قاضی القضاۃ" کا وہ عہدہ بھی قبول فرمایا جس کو قبول کرنے سے ان کے مرتبی اور استاذ نہیں کے ساتھ انکار کر کے تقدیر و تعزیب کو دعوت دی تھی وہاں انہوں نے امام

صاحب کے دوسرے شاگرد امام محمدؐ کے اتفاقی رائے کے ساتھ مزارعت پر کچھ شرائط
عائد کر کے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی دے دیا۔ بعد میں وہ شرائط تو طاقتی نیاں
کے حوالے ہو گئیں اور پورے عالم اسلام میں ”مزارعت“ شیر مادر کی مانند حلال و طیب
ہو گئی اور اس طرح شہنشاہیت اور جا گیر داری کو دام و استحکام حاصل ہو گیا! (کچھ ایسا
ہی معاملہ فقہ اسلامی کی دوسری غلظیم شاخ یعنی اصحاب حدیث کے ساتھ بھی پیش آیا۔
یعنی امام مالکؓ کے شاگرد امام شافعیؓ نے تو کھلے کھیت میں مزارعت کی حرمت کے قوے
کو برقرار رکھتے ہوئے صرف باغ کے تابع کھیت میں اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، لیکن
ان کے بعد امام احمدؓ اور امام بخاریؓ وغیرہم نے اسے بالعموم جائز قرار دے دیا! گویا ع
”متفق گردید رائے بولی بارائے من“ کے مصدقہ کم از کم جا گیر داری اور غیر حاضر
زمینداری کے معاملے میں یہ دونوں مخالف سلسلہ ہائے فقه متفق ہو گئے۔)

کچھ اسی قسم کا معاملہ بزوی شمشیر فتح ہونے والے علاقوں کی اراضی کو ”بیت المال
کی ملکیت“ میں برقرار رکھ کر ان سے حاصل شدہ خراج کو دفاع اور دیگر انتظامی
ضروریات اور سب سے بڑھ کر عامتہ اُسٹلین اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لئے
وقف رکھنے کی بجائے منظور نظر اشخاص و افراد کو جا گیروں کی صورت میں دے کر ان کی
ذاتی ملکیت قرار دینے کے معاملے میں ہوا۔ جس کے لئے دمیل نبی اکرم ﷺ کے
اس معاملے سے لائی گئی جو آپؐ نے ۷۱ میں فتح خیر کے بعد وہاں کے یہودیوں کے
ساتھ کیا تھا۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اجتہاد اپنے
ذور خلافت میں کیا، وہ فتح خیر کے کم و بیش دس سال بعد کا واقعہ ہے۔ اور جبکہ یہ معلوم
ہے کہ ان کی رائے پر رد و قدح اور بحث و نزاع کا بازار پوری طرح گرم رہا تھا، جس کی
تفصیل گزشتہ صفحات میں دی جا چکی ہے تو یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ جو حضرات
مفتونہ اراضی کو مالی غنیمت کے طور پر تقسیم کرنے کے حق میں تھے انہوں نے آنحضرت
ﷺ کے معاملہ خیر کو دمیل کے طور پر پیش نہ کیا ہو۔ اور اگرچہ ہمارے پاس اس روتو
قدح اور بحث و نزاع کا کوئی مفصل ریکارڈ محفوظ نہیں ہے، تاہم یہ بات تو اظہر من

اُنہیں ہے کہ اس دلیل کا ردِ یقیناً کسی زیادہ وزنی دلیل ہی سے کیا گیا ہو گا۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ آئخضور ﷺ کے انتقال کے صرف چند سال بعد دو خلافت راشدہ ہی میں آپ ﷺ کے طریقہ عمل کے برعکس معاملے پر اتفاق ہو جاتا۔ رہی یہ بات کہ وہ دلیل کیا تھی تو قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد اسی امر واقعی پر ہو گی کہ خیر کا معاملہ سود کی آخری اور قطعی حرمت والی آیات کے نزول سے لگ بھگ اڑھائی سال قبل کا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حرمت ربا کے حکم نے جملہ مالی معاملات اور اقتصادی امور کے ضمن میں صورت حال کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ متعدد احادیث اس پر گواہ ہیں کہ آپ ﷺ نے مزارعت کے معاملے کو بھی ”ربا“ قرار دیا۔ اور چونکہ ان آیات مبارکہ کے نزول کے بعد نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ ذیبوی بہت محصر رہی لہذا حرمت ربا کی زد کن کن معاملات پر پڑتی ہے اس کی پوری تفصیل صحابہ کرام پر واضح نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”إِنَّ أَخِرَّ مَا نَزَّلْتُ أَيْهَةَ الرِّبَاٰ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفِضْلُ وَلَمْ يَقْسِرْ هَا لَنَا، فَلَدَغُوا الرِّبَا وَ الرِّبَا يَلْدُ“^{۱۸}

”قرآن میں جو آیات بالکل آخر میں نازل ہوئیں ان میں آیتِ ربا بھی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا جب کہ ابھی آپ ﷺ نے اس آیت کی پوری تغیری نہیں سمجھائی تھی۔ پس نہ صرف ربا تو ترک کر دو بلکہ جس معاملے میں ربا کا شک اور شائیہ بھی پیدا ہو جائے اسے بھی ترک کرو!“

بہر حال یہ ہے وہ تاریخی پس منظر جس میں دو یلوکیت میں مرتب ہونے والی فقہ کے مالی اور معماشی مسائل میں ایک جانب بیع متوسل جل اور بیع مرا بح کے جواز کے راستے سے ”سرمایہ کا سود“ تدوینے پاؤں بالکل غیر محسوس انداز میں داخل ہو گیا رہا۔ زمین کا سود، تدوہ تو حسب ذیل فتوے کی رو سے پورے دھڑتے کے ساتھ پورے عالم اسلام میں رانج ہو گیا کہ ”پس حکمران کو اختیار ہے کہ چاہے تو مفتوح اراضی کو مالی تغییت کے طور پر فاتحین میں تقسیم کر دے، جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نے خیر کے معاملے میں کیا تھا، یا

(۱۸) عن سعید بن المسيب۔ رواه ابن ماجه فی التجارات، باب التغليظ فی الربا، واسناده صحيح

چاہے تو وہ معاملہ کرے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سواد عراق کے فہم میں کیا تھا۔
(المبسوط) اس لئے کہ اس قتوے کے ذریعے جا گیرداری جائز ہو گئی جس کا سارا دارود مداری مزارعت پر ہے، جو زمین کے ربا کی حیثیت رکھتی ہے۔

اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو قول "علم کے دو برtronوں" کے فہم میں نقل ہوا ہے اس کی حقیقت مزید اجاگر ہو جائے گی اگر یہ بات پیش نظر ہے کہ ایک مجلس کی تین یا تین سے بھی زائد طلاقوں کے فہم میں نبی اکرم ﷺ کی رعایت اور نبی فرمایا کرتے تھے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحت امت کے پیش نظر اپنے ایک اجتہادی فیصلہ سے ختم کر دیا تو اس پر توالی سنت کے چاروں مکاتب فقہ کا اس درجہ عزم بالجسم کے ساتھ اصرار ہے کہ کسی بھی صورت میں نبی اکرم ﷺ کی رعایت کو دوبارہ جاری کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، لیکن جا گیرداری اور زمینداری کے مسئلے میں حضرت عمرؓ کے اجتہاد اور اس پر اس وقت کے "اجماع" کو رد کر کے حضور ﷺ کے معاملہ خیبر پر عمل کرنے کے اختیار کو حاکم وقت کے لئے تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر "اجماع" کوئی خالص تصوراتی بلکہ وہی شے نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی واقعی وجود ممکن ہے، تو وہ یا تو صرف دورِ خلافت راشدہ کا اجماع ہی ہو سکتا تھا جب پورا عالم اسلام ایک سیاسی وحدت تھا، یا پھر قیامت کے قریب اس وقت ممکن ہو گا جب آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق تمام روئے ارضی پر خلافت علیٰ منہاج الدوٰت یعنی اسلام کے "جست ورلڈ آرڈر" کا نظام قائم ہو جائے گا۔

تاہم میری ان معروضات کو نہ مفتیان کرام کی تو ہیں پر محمول کیا جائے نہ فقہائے عظام کی تتفیص پر بلکہ جیسے کہ سلوگر گزشتہ میں عرض کیا گیا تھا، تقصود صرف یہ ہے کہ ان مسائل پر بحث و گفتگو کا آغاز ہو۔ اور مصالح مرسلہ اور مفہود عامہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے افہام و تفہیم کے ذریعے آئندہ کے لئے راہیں متعین کی جائیں۔

البتہ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہئے کہ اگر اس دور میں جبکہ ابھی ملوکیت بھی جڑیں کپڑی رعنی تھی، اور "کسرائے عرب" یا "کسرائے اسلام" بھی ایک جلیل القدر صحابی

(حضرت معاویہؓ) تھے ایک دوسرے جلیل القدر صحابی (حضرت ابو ہریرہؓ) کو اپنی اس بشری کمزوری کے اعتراض میں کوئی جھگ محسوس نہیں ہوئی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے حاصل شدہ علم کے ایک برتن کامنہ جان کے خوف سے بند کر رکھا ہے، تو اس کے سو ذیڑھ سو برس بعد جبکہ ملکیت بھی اپنی پوری شان اور کروفز کے ساتھ جلوہ گر ہو چکی تھی، اور ”قرون مشہود لہا بالخیر“ (یعنی وہ ادوار جن کے خیر کے حامل ہونے کی گواہی خود آنحضرت ﷺ نے دی ہے) کا زمانہ بھی بیت چکا تھا، علمائے اسلام اور فقہائے کرام کا حالات کے جبر سے متاثر ہو جانا ہرگز نہ بعد از قیاس ہے نہ ان کے لئے موجب توہین!

بہر حال جا گیرداری اور غیر حاضر زمینداری کے ظالمانہ اور استھانی نظام سے نجات پانے کی واحد شرعی راہ یہ ہے کہ ”شیشی فاروقی“ کو بے نیام کیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کے مطابق (جس پر کم از کم اُس وقت اجماع بھی ہو گیا تھا) تمام مفتوحہ ممالک کی اراضی کو ”خراجی“ (یعنی بیت المال یا مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت قرار دیا جائے جو کسی کی انفرادی ملکیت میں ہیں ہی نہیں کہ وہ سارے مسائل پیدا ہوں جو پریم کوثر کے شریعت امیلیت نئی کے فاضل نجح صاحبان نے اپنے فاضلانہ فیصلوں میں اٹھائے ہیں۔ بنابریں اب تک مسلمان حکمرانوں یا غیر مسلم حاکموں نے جن جن لوگوں کو جا گیریں عطا کی تھیں ان سے جو استفادہ وہ اب تک کر چکے ہیں اس کو **فَلَهَ مَا سَلَفَ** (البقرہ: ۲۷۵) کا مصدق قرار دے کر (یعنی: جو گزر چکا وہ ان کو معاف ہے!) آئندہ ایک ایسے نئے بندوبست اراضی کا اہتمام کیا جائے جس سے سماجی انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں، عوام کی عظیم اکثریت کی معاشی حالت بھی بہتر ہو زمین کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو، اور قوم اور ملک کو بھی استحکام حاصل ہو۔ اس ضمن میں دو باتیں مزید انتراح کا ذریعہ بن سکتی ہیں:

(۱) ایک یہ کہ بیسویں صدی عیسوی کے آغاز تک جو ممالک خلافت عثمانیہ کے زیر نگیں تھے، ان میں بھی بندوبست اراضی رانج تھا کہ تمام اراضی سرکاری ملکیت میں تھیں اور کاشتکاری بھی ”موروثی مزارعات“ کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ ایک کاشتکار کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں کو از سرنو پرواہ کاشتکاری حاصل کرنا ہوتا تھا۔

(۲) دوسرے یہ کہ ہندوستان کے انیسویں صدی کے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے نامور شیخ اور عظیم ترین مفسر، محدث اور فقیہہ قاضی ثناء اللہ پانی تھی۔ (صاحب تفسیر مظہری) نے اپنی مشہور رِ زمانہ تالیف "مالا بُدْ منہ" میں صاف تحریر فرمایا ہے کہ "چونکہ اس ملک میں زمینیں عشرتی نہیں (بلکہ خراجی) ہیں، لہذا اس کتاب میں عشرت اور عاشر (یعنی عشر وصول کرنے والے تحصیل داروں) کے احکام بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے!"

واضح رہے کہ یہ کتاب فقہ حنفی کے قاعدے یا پراہنگر کی حیثیت سے تمام مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔

آخر میں پریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت بیانی کے متذکرہ بالا فیصلے پر جو فاضلانہ تبصرہ ملک کے ایک ماہر قانون دان جناب سردار شیر عالم صاحب نے کیا ہے، جو پاکستان لاء جریل کی اشاعت بابت مارچ ۱۹۹۳ء میں "قرارداد مقاصد اور عدالتیہ کا کردار!" کے عنوان سے شائع ہوا ہے اس کے حسب ذیل دو اقتضائی اور اختتامی جملے ہدیہ قارئین ہیں:

- (1) "In Qazilbash Waqf case, the Land Regulation of 1972 and Land Reforms Act of 1977 which fixed the ceiling for land holding were struck down on the basis of repugnancy to Islam. The court broke through the protective stonewall erected by Article 253, 8(3), (24), 268 (2), 269 and reinforced by Article 203B (c) of the Constitution."
- (2) "Now the situation is that the judicial pronouncement of the Supreme Court has struck down the land reforms as un-Islamic and thus defeated the operation of so many constitutional provisions including 253 (2). But it remains an open question even now as to which one should prevail, the effect of a constitutional provision i.e. 253(2) or the effect of judicial pronouncement."

کاش کہ پریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس فیصلے پر از خود نظر ہانی کرنے کا فیصلہ کرے۔ اللہم آمين!

اسلام کے دو معاشی نظام

سماجی انصاف کے ضمن میں عہد حاضر میں معاشی عدل کی اہمیت اور اس سلسلے میں خاص طور پر پاکستانی معاشرے سے جا گیرداری، غیر حاضر زمینداری اور مزارعت کے خاتمے کی بحث کے ضمن میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ معاشی اور اقتصادی معاملات کے بارے میں شریعتِ اسلام کے احکام کی پشت پر جو بنیادی اصول کا فرمایا ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ ان کے پس مظہر میں شریعت کے احکام کی حکمتیں سامنے آ سکیں اور ذہن و قلب میں انتشار پیدا ہو سکے۔

اسلام نے معاشی اور اقتصادی معاملات میں عدل و قسط کا جو مقام متعین کیا ہے جس میں اس نے مساوات اور آزادی ایسی بظاہر متقداد القدر کو نہایت خوبصورتی اور توازن سے سودا دیا ہے اس کے بارے میں یہ بات شاید اکثر لوگوں کو چونکا دے (اور یہی میں چاہتا ہوں تاکہ ذہن بیدار ہو جائیں) وہ یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام ایک نہیں دو ہیں اور دونوں اپنی جگہ از ابتداء تا انتہا مکمل ہیں۔ چنانچہ دونوں کا اپنا اپنا فلفہ ہے، دونوں کا مختلف نظریہ ملکیت، نظریہ حقوق اور نظریہ قدر زائد (Surplus value) ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی چیزیں کسی معاشی نظام میں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ جملہ امور ان دونوں میں بالکل جدا ہیں۔

اسلام کے ان دونوں معاشی نظاموں کو کوئی چاہے تو یوں کہہ لے کہ یہ دونوں ایک ہی نظام کے دو رخ ہیں، لیکن بہر حال ان کے علیحدہ علیحدہ وجود سے انکار ممکن نہیں۔ البتہ یہ دونوں نظام ایک دوسرے سے interconnected (باہم مربوط) بھی ہیں اور بہت حد تک interdependent بھی۔ اور اسلام کی اصل برکات اور اس کے جملہ ثمرات کا کامل ظہور ان دونوں کے اجتماع اور اتصال ہی سے ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک پہلو نگاہوں سے اچھل ہو

جائے اور توجہ صرف دوسرے پر مرکوز ہو جائے تو اس سے جو تصویر سامنے آئے گی وہ اصل حقیقت سے بہت دور ہو گی۔ ان میں سے ایک اسلام کا روحاںی و اخلاقی نظام ہے اور دوسرا قانونی و فقہی نظام۔ اور ان دونوں کے تقاضے بسا اوقات مختلف ہیں نہیں متفاہد ہوتے ہیں۔ تاہم ان دونوں کے امترانج سے اسلام کا کامل نظام وجود میں آتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان دونوں پہلوؤں کو ”دعویٰ“ (Thesis) اور ”جوابِ دعویٰ“ (Anti-Thesis) سے تحریر فرمائیں اور اسلام کے مجموعی اقتصادی نظام کو ان دونوں کا امترانج (Synthesis) قرار دے لیں۔

اسلام کی قانونی اور اخلاقی تعلیمات کے مابین جو فرق و تفاوت بہت سے معاملات میں موجود ہے، وہ ایک چھوٹی اور سادہ سی مثال سے واضح ہو جائے گا۔ فرض کیجیے کہ کوئی شخص آپ کے ایک تھہزار دے تو اگر آپ بالکل ہی عاجز و کمزور ہوں تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ ”قہر درویش بر جان درویش“ کے سوا اور کوئی صورت قابل عمل ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ بدلتے لینے پر قادر ہوں تو آپ کے سامنے دوراستے کھلے ہوں گے: ایک یہ کہ آپ بدلتے لیں اور دوسرے یہ کہ آپ معاف کر دیں۔ اس صورت میں ایک جانب اسلام کا قانونی اور فقہی نظام ہے جو بدلتے اور قصاص کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْثُّ أَتَوْلَى الْأَلَابِ﴾ (البقرة: ۹۱) یعنی ”اے ہوش مندو! تمہارے لئے قصاص ہی میں زندگی ہے!“ لیکن دوسری طرف اسلام کا اخلاقی اور روحاںی نظام ہے جو غفو در گزر کی تلقین کرتا ہے، یعنی اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ اور خدا ترسی سے قریب تر ہے۔ چنانچہ کہیں تو شوق اور رغبت دلانے کے انداز میں فرمایا جاتا ہے ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۳۳) یعنی ”وہ لوگ جو غصہ کو پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔“ اور کہیں اس سے بھی زیادہ زور دار الفاظ میں تغییر دی جاتی ہے کہ ﴿وَإِنْ تَغْفُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التغابن: ۱۳) یعنی ”اگر تم معاف کر دیا کرو، اور جسم پوشی سے کام لو اور خطا کیں، بخش دیا

کرو تو یقیناً اللہ بھی غفور و رحیم ہے! ” — دیکھ لیجئے کہ عفو و قصاص ایک دوسرے کی بالکل خد ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انسانی معاشرہ ان دونوں میں سے صرف ایک پر استوار ہو سکتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے مقام پر لازم و ناگزیر ہیں اور حسن معاشرت ان دونوں کے انتراج ہی سے وجود میں آتا ہے۔

اس پر قیاس کر کے سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام کے معاشی نظام کے بھی دو پہلو ہیں: چنانچہ ایک جانب قانونی اور فقہی نظام معیشت ہے جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ یہ ایک نوع کی محدود (Controlled) اور داخلی طور پر منضبط (Internally managed) سرمایہ داری (Capitalism) ہے، اس لئے کہ اس میں انفرادی سرمایہ کاری کی اجازت موجود ہے، اگرچہ اسے ”سرمایہ دارانہ نظام“ بننے سے بعض تحدیدی اقدامات نے روک دیا ہے۔ دوسری طرف اسلام کا روحانی و اخلاقی نظام معیشت ہے جس کے بارے میں پورے انشراح صدر سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک نہایت اعلیٰ قسم کی روحانی اشتراکیت (Spiritual Socialism) ہے اور ایک ایسا کامل سو شلزم ہے کہ اس سے بلند تر سو شلزم کا تصور ممکن ہی نہیں۔ اس لئے کہ سو شلزم یا کمیوززم میں تو پھر بھی انسانی ملکیت کا اثبات موجود ہے، اگرچہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی، لیکن اسلام اپنی اخلاقی و روحانی اور صحیح تر الفاظ ”ایمانی تعلیم“ کی رو سے انسانی ملکیت کی کلی نفی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں کہ ﴿لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک صرف اللہ ہے“۔ چنانچہ انسان کسی اور شے کا مالک تو کیا ہو گا، خواہ وہ زمین ہو یا مکان اور سازوں سامان ہو یا روپیہ پیسہ وہ تو خدا اپنا اور اپنے وجود کا مالک بھی نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح اور جسم و جان اور اس کی کُل صلاحیتیں اور تو اتنا یہ اس سب اللہ کی ملکیت ہیں اور وہ زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا میں ہوں۔ بقول شیخ سعدی۔

ایں امانت چند روزہ نزدِ ماست

درحقیقتِ مالک ہر شے خداست

یا بقول علامہ اقبال۔

رُزقِ خود را از زمین بردن رواست

ایں متاع بندہ و ملکِ خداست

اس اعتبار سے ہمارے ہاں بڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ سو شلسٹ ڈہن رکھنے والے اہل قلم متذکرہ بالا مضمون کی آیات اور احادیث کو اکٹھا کر کے ہر شے کی ملکیت کی بھی کامل نقی کرتے رہے ہیں اور ضرورت سے زائد اپنے پاس رکھنے کی بھی، کہ جب **(فَلِ الْعَفْوِ)** (البقرہ: ۲۱۹) فرمادیا گیا، یعنی جتنا ضرورت سے زائد ہے اللہ کی راہ میں دے ڈا لو۔ تو زائد چیز جبراً بھی وصول کر لی جائے گی۔ اس طرح وہ ایک کامل اسلامی سو شلسٹ کا نقشہ پیش کرتے رہے جب کہ دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز کرتے رہے۔ حالانکہ قانون و راثت بھی اسی قرآن میں موجود ہے اور حضور اکرم ﷺ نے جو نظام برپا کیا تھا اس میں کہیں جبری مساوات دکھائی نہیں دیتی۔ بلکہ اس کے بر عکس آزاد معیشت کے موقع دیئے گئے تھے کہ محنت کرو اور جائز ذرائع سے کماو، اور ان ذرائع سے تم جو کچھ کماو گے اس پر تمہارا حق تصرف یہاں تک تسلیم کیا جائے گا کہ اس کو دراثت میں منتقل بھی کیا جاسکے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں بعض منکریں اور اصحاب قلم نے صرف اس قانونی نظام کو اتنا نمایاں کیا ہے کہ دوسرا پہلو دب کر رہ گیا ہے۔ یعنی **(فَلِ الْعَفْوِ)** کی آیت ان کی تقریر و تحریر میں آتی ہی نہیں!

یاد رہے کہ یہ کنفیوژن (البجنون) پورے خلوص کے ساتھ مغض غلط فہمی کی بندید پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ یہ غلط فہمی ہمارے دوڑا اول یعنی خلافت راشدہ کے دوران بھی پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے غلبہ زہد کے باعث یہ رائے قائم کر لی تھی کہ ضرورت سے زائد اشیائے صرف اور کسی بھی مقدار میں سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ گویا آپ نے آئے کنز یعنی سورۃ التوبہ کی آیت:

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابِ الْيَمِينِ ۵۰

”جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں
کرتے انہیں در دن اک عذاب کی خوشخبری سناد تجھے؟“

کو بالکل اس کے ظاہری الفاظ پر محبوں کیا۔ چنانچہ خلافتِ راشدہ کے اس نظام میں جس پر تمام امتِ جماعتِ حق تھی، اس رائے کو ایک انہما پسندانہ موقف قرار دیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں انہیں مدینہ منورہ سے باہر چلے جانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ لہذا انہوں نے ایک بیان میں جھوپنپڑا ذالا اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے احسان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وفات کے قریب آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ ”میرے خلیل (یعنی نبی اکرم ﷺ) نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم اپنے ارد گرد سانپ بچھو (یعنی نسامان تعمیش)، جمع کرلو گے۔ افسوس کہ ہم نے بھی سانپ اور بچھو اپنے گرد جمع کر لئے ہیں۔“ تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں وہ سانپ اور بچھو؟ تو آپ نے معمولی چیزوں جیسے تو، چمٹا اور دیپٹھی کا حوالہ دے کر کہا: یہ نہیں پڑے ہوئے میرے گرد! حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسی غلبہ زہد کی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”تم میں سے جو چاہے کہ حضرت عیسیٰؑ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اسے چاہئے کہ وہ میرے دوست ابوذرؓ کو دیکھ لے۔“ بہر حال یہ نظامِ اسلامی کا وہ روحانی پہلو ہے جس کی طرف اسلام انسانوں کو ترغیب تو دینا چاہتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے تزکیہ اور روحانی مراتب کے حصول کے لئے آگے بڑھ سکتا ہے، مگر اس کو قانونی درجہ دے دینا ایک مخالف تھا جو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پورے خلوص اور اخلاق کے ساتھ لاحق ہوا۔ لیکن عہد حاضر میں یہ مخالفہ جان بوجھ کراور بد نیتی کے ساتھ دیا جاتا رہا ہے، کیونکہ آج تو خلافتِ راشدہ کا نظام پورے کا پورا ہمارے علم میں موجود ہے اور امت کے اس اجتماعی فیصلے کو بغیر بد نیتی کے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔

بہر حال اسلام کے اس روحانی معاشری نظام کے چار اصول ذہن میں اچھی طرح

مرتب اور مستحضر کرنے جائیں:
۱) انسانی ملکیت کی کلی نفی۔

۲) یہ یقین کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس کی کمائی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ گو دکان پر وہ بیٹھا ہے، کھیت میں مل اس نے چلا یا ہے، محنت اس نے کی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کو اللہ کا عطا ہے اور اس کا فضل سمجھو۔ اگر اسے اپنی محنت کا شرہ سمجھو گے تو اس پر اپنا حق تکمیت جتا ہے اور اس کا منطقی تبیجہ یہ ہو گا کہ تم بھی وہی سمجھو گے جو قوم شعیب نے سمجھا تھا کہ ﴿هُنَّاَنْفَعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوْا﴾ (ہود: ۸۷) یعنی یہ کہ ہمیں اختیار ہوتا چاہئے کہ اپنے مال میں جیسے چاہیں تصرف کریں لیکن اگر اللہ کا فضل سمجھو گے تو اس میں تصرف بھی اصل مالک اور عطا کننہ کی مرضی کے مطابق کرو گے۔

۳) اللہ کے اس "فضل" میں سے انسان کا جائز حق صرف اس کی ضروریات کے بعد رہ ہے، اور ان بنیادی انسانی ضرورتوں کو بھی بعض احادیث میں متعین کر دیا گیا ہے۔ یعنی:

(۱) اگر دو وقت کھانے کے لئے مل گیا ہے۔

(۲) سرچھانے کے لئے اگر کوئی چحت موجود ہے۔

(۳) پینے کے لئے اگر دو جوڑے کپڑوں کے موجود ہیں۔ اور

(۴) اپنے کردار، اخلاق اور عفت کی حفاظت کے لئے اگر ایک بیوی بھی موجود ہے تو تمہارا بنیادی حق تمہیں مل گیا۔

۴) اس بنیادی ضرورت سے زائد جو کچھ ہے اس کے بارے میں اخلاقی یا روحانی سلط پر اسلامی کی تعلیم یہ ہے کہ وہ خواہ قانونی اعتبار سے تمہارا ہو، حقیقت کے اعتبار سے تمہارا نہیں، دوسروں کا حق ہے۔ اس کو ان لوگوں تک پہنچا دو جن کے پاس بنیادی ضرورت کے بعد رہ بھی موجود نہیں ہے اور پھر سمجھو کہ تم غریبوں کی اس امانت کے بوجھ سے سبکدوش ہو گئے جو تمہارے امتحان کی غرض سے تمہارے مال میں شامل کر دی گئی تھی۔

الغرض یہ ہے وہ مقام جہاں ﴿فِلِ الْعَفْوِ﴾ کا فلسفہ بندہ مومن کو پہنچانا چاہتا ہے۔

یعنی یہ کہ تمہارے پاس جو بھی "قدِ رِزَانَد" ہے اس کو مزید کمائی کا ذریعہ نہ ہنا۔ تمہاری ضرورت پوری ہو گئی تو تمہارا حق مکمل ہو گیا، اب جو زائد تمہارے پاس ہے وہ خواہ قانوناً تمہارا ہو گر حقيقة تمہارا نہیں ہے۔

بہر حال یہ ایک مکمل معاشی نظام ہے۔ اس میں ملکیت اور قدِ رِزَانَد کا اپنا جدا گانہ تصور ہے، اور اس قدِ رِزَانَد کا مصرف بھی طے شدہ ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے خود اسی نظام کے مطابق زندگی برکی تھی۔ چنانچہ یہ بات بہت سے لوگوں کے لئے جنہوں نے اس سے قبل ان معاملات پر غور نہ کیا ہو؛ بہت حیران کن ہو گی کہ نبی اکرم ﷺ نے تمام عمر "زکوٰۃ" ادا نہیں کی۔ اس لئے کہ زکوٰۃ تو ظاہر ہے کہ صرف صاحبِ نصاب پر عائد ہوتی ہے اور آپ نے کبھی کوئی ہر ہم و دینار اپنے پاس رکھا ہی نہیں کہ اس کی نوبت آ سکتی۔ لیکن یہ بات واضح و ہنی چاہئے کہ اس نظام کی ساری خوبی اور اس کا کل حسن اس کے "رضَا کارانہ" (voluntary) ہونے میں مضر ہے۔

اسے کسی ادنیٰ درجہ میں بھی بالخبر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو تیجہ وہی نکلے گا جو کیوں زم کے حشر کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہمیں دونوں طرح کے حضرات انتظار آتے ہیں۔ وہ بھی جنہیں عرف عام میں فقراء صحابہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسی "اختیاری فقر" کے نظام کو عملًا اختیار کیا جن کے سرخیل حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنا عام چلن تو اسلام کے قانونی اور فقہی نظام کے مطابق رکھا جس سے ان کے پاس سرمایہ جمع بھی ہوا، لیکن جب بھی جہاد اور قیال فی سبیل اللہ کے لئے ضرورت پیش آئی انہوں نے اپنا مال حاضر کر دیا۔ دو ز صحابہ کے بعد اسی "اختیاری فقر" اور "رضَا کارانہ سو شزم" پر صوفیائے کرام کا عمل رہا۔ اور کون نہیں جانتا کہ دو ز صحابہ کے بعد اسلام کی تبلیغ و توسیع کا سارا معاملہ ان ہی حضرات کی مسائی کام ہوئی منت ہے۔

قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے ایمانی اور روحانی سلط پر قرآن کی معاشی تعلیمات پر غور و فکر کے ضمن میں سورۃ الروم کی آیت ۳۹ بہت

تجھے اور غور کے قابل ہے جس میں ”ربا“ (سود) کا ذکر بمقابلہ صدقات آیا ہے:

﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَآ إِلَّا بِوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُرِيبُونَا عَنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ﴾^{۵۰}

”اور جو تم دیتے ہو سود پر کہ بذہتار ہے لوگوں کے مال میں سودہ نہیں بذہتالله کے بیہان، اور جو دیتے ہو زکوٰۃ سے اللہ کی رضا مندی چاہتے ہوئے ہوئے، سو یہ وہی ہیں جو (اپنے مال کو) بڑھانے والے ہیں۔“

گویا دین کی روحانی تعلیم کے اعتبار سے ”ربا“ درحقیقت صدقہ اور خیرات کے بالمقابل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہیں ملازم ہے اور اس کو ماہان تخفواہ ملتی ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں لیکن کچھ اضافی سرمایہ اس کے پاس جمع ہو گیا ہے۔ اس فاضل سرمایہ کے دو مصرف ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو کسی اور کے کاروبار میں لگا کر اس کی محنت کے مل بوتے پر اس سرمایہ کو بڑھائے (وہ خود تو محنت نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو کسی اور جگہ ملازم ہے) تو اگر چہ یہ قانونی اور فقہی سطح پر جائز اور درست ہے لیکن روحانی سطح پر یہ بھی ”ربا“ ہی قرار پائے گا، کیونکہ اس روحانی اور اخلاقی سطح پر اس فاضل سرمائے کا صحیح مصرف یہ ہے کہ اڈل تو اس کا مالک ہی محتاجوں اور غریبوں کو بنا دیا جائے، یعنی ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو محروم ہیں یا جن کے پاس کاروبار کے لئے بنیادی سرمایہ موجود نہیں ہے، یا بدرجہ آخر ”قرض حسن“ کی صورت میں دے دیا جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا کاروبار چلا کر اسے واپس لوٹا دیں۔ اس سے آگے بڑھ کر فاضل سرمائے کو مزید آمدی کا ذریعہ بنانا قانونی سطح پر تو جائز ہو سکتا ہے مگر روحانی اور اخلاقی سطح پر یہ چیز بھی منوعات کی فہرست میں داخل ہے۔

اسلام کا قانونی نظام معاشرت

اخلاقی اور روحانی یا قرآن و حدیث کی مخصوص اصطلاح میں ایمانی اور احسانی سطح پر اسلام کی معاشری تعلیمات کے ضمن میں دو امور تو اس سے قبل واضح کئے جا چکے ہیں، یعنی:

۱) ایک یہ ایک مکمل معاشری نظریہ اور نظام ہے جس کے چار بنیادی اصول یہ ہیں کہ
 (i) اس پوری کائنات میں ملکیت کا کامل اور مطلق حق صرف اللہ کو حاصل ہے، انسان کو یہ حق نہ انفرادی سطح پر حاصل ہے نہ اجتماعی یا قومی سطح پر، بلکہ انسان کو صرف حق "امانت" حاصل ہے۔ (ii) اس دنیا میں کسی انسان کو جو کچھ ملتا ہے، خواہ اس کے لئے اس نے خود شدید محنت کی ہو اور مشقت جھیلی ہو وہ اس کی "سمائی" نہیں بلکہ اللہ کا "فضل" ہے۔ (iii) اس فضل خداوندی میں سے انسان کا جائز حق صرف اس کی "ضروریات" کی حد تک ہے۔ (iv) اس سے زائد جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں بلکہ حقیقت میں فقراء اور مساکین یا سائلین اور محرومین کا حق ہے جو اس کے مال میں صرف اس امتحان کی غرض سے شامل کر دیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ آیا وہ پوری امانت داری کے ساتھ اصل حق داروں کو ان کا حق پہنچا کر سبکدوش اور سرخرو ہو جاتا ہے یا اس پر اپنے "قبضہ مخالفانہ" کے ذریعے اپنے آپ کو اخلاق کی بالیدگی اور روحانی ترقی سے محروم کر لیتا ہے۔

۲) دوسرے یہ کہ نبی اکرم ﷺ اور بہت سے صحابہؓ نے اسی "اختیاری فقر" کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ اور دوسرے صحابہؓ کے بعد اولیاء اللہ اور صوفیائے کرام نے بھی ع "مراطیریق امیری نہیں، فقیری ہے!" کے مصدق اسی سطح پر زندگیاں بسر کیں۔ البتہ یہ واضح رہنا چاہئے کہ یہ معاملہ خالص اختیاری (Voluntary) ہے۔ اور

اس میں قانونی یا ریاستی جگہ کا ادنیٰ شانہ بھی شامل ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کا اصل "حسن"، ختم ہو جائے گا بلکہ اس کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے گا۔

ان دو امور پر ایک تیری حقیقت کا اضافہ کر لیا جائے۔ اور وہ یہ کہ اگرچہ اس سطح پر زندگی برقرار رکھنے کا مؤثر ذریعہ بن جاتے ہیں اور انہیں گویا اس معاشرے میں ایک قسم کے اخلاقی و روحانی Pace-makers کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ عوام الناس میں ہر داعریزی اور مقبولیت انہیں حاصل ہوتی ہے نہ کہ اصحاب دولت اور ارباب اقتدار کو۔ اور حقیقی معنی میں تعظیم اور تکریم ان کی ہوتی ہے نہ کہ صاحبانِ تخت و تاج اور اصحاب دولت و ثروت کی بلکہ بسا اوقات بڑے بڑے شہنشاہ اور کچھ کلاہ ان خرقہ پوش اور بوریا نشین فقیروں کے درپر حاضری کو اپنے لئے موجب سعادت سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ بالکل صحیح فرمایا علام اقبال نے کہ۔

یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغوری!

چنانچہ نہایت مشہور واقعہ ہے کہ حج کے موقع پر لوگوں کا رجوع عام اور خلقت کا اٹھ دھام ایک صاحب علم و فضل کے گرد دیکھ کر ہارون الرشید جیسے عظیم حکمران سے اس کی محبوب بیگم ملکہ زبیدہ نے کہا تھا: "اصل حکومت تو ان کی ہے نہ کہ تمہاری!" پھر چند سو سال بعد کا واقعہ ہے کہ بر عظیم ہند کے پایہ تخت دہلی میں طویل عرصے تک دو متوازی حکومتیں قائم رہیں، ایک سیاسی اور عسکری حکومت اور دوسرا اخلاقی اور روحانی حکومت اور مؤخر الذکر حکومت کے ایک "تاجدار" سلطان البند حضرت نظام الدین اولیاء کے "عہد حکومت" کے دوران چھ یا سات بادشاہ سیاسی اور عسکری حکومت کے تخت پر بیٹھے، لیکن نہ صرف یہ کہ حضرت نظام الدین نے کبھی کسی بادشاہ کے ذریبار میں حاضری نہیں دی بلکہ

بعض کی شدید خواہش کے باوجود انہیں اپنے یہاں حاضر ہونے کی اجازت بھی مرحمت نہیں فرمائی..... اور یہ تو بالکل ماضی قریب کا واقعہ ہے کہ گزشتہ صدی کے دوران سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت شاہ غلام علیؒ نے ریاست ٹوک کے والی نواب امیر خان کی جانب سے خانقاہ کے مصارف کے لئے ایک جا گیر کاویشیقہ اس کی پشت پر یہ شعر لکھ کر واپس کر دیا تھا کہ—

ما آبروئے فقر و قناعت نہ باخشم

با میر خان گوئے کہ روزی مقدر است

یعنی ”هم یہ جا گیر قبول کر کے اپنے فقر اور درویشی کی عزت و آبرو کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ امیر خان سے کہہ دیا جائے کہ ہماری روزی ہمارے پروردگار کی جانب سے مقرر ہے۔“

چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ آج ہم قومی سطح پر اخلاق کے جس خوفناک زوال اور روحانیت کے جس شدید فقدان سے دوچار ہیں اس کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ آج لاکھوں کیا کروڑوں میں بھی کوئی ایک انسان اس سطح پر زندگی گزارنا نظر نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عزت و احترام کی بنیاد صرف دولت و شروطت اور حکومت و اقتدار بن کر رہ گئے ہیں، حالانکہ لوگوں کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت حرام اور ناجائز ذرائع سے کمائی گئی ہے اور یہ اقتدار بھی ”دھن، دھنس اور دھاندی“ کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔

اور اب آئیے قانونی اور فقہی سطح پر اسلام کی معاشی تعلیمات کی جانب! جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، قانونی سطح پر اسلام کا معاشی نظام ایک محدود اور مقید (Controlled) اور اندر ونی طور پر منضبط (Internally Managed) سرمایہ دارانہ معیشت (Capitalism) کی حیثیت رکھتا ہے۔

تو آئیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ”کپیٹل ازم“ سے کیوں اور کیسے مشابہ ہے؟ یہ بنیادی طور پر کپیٹل ازم سے اس لئے مشابہ ہے کہ اس میں وہ چاروں بنیادی

اوصاف موجود ہیں جو مغرب کے سرمایہ دارانہ معاشری نظام میں بھی موجود ہیں اور درحقیقت ان ہی کی بنیاد پر اسے کیونزم پر وہ فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی ہے جس کا جشن آج پوری مغربی دنیا اور خصوصاً اس کے امام اور قائد امریکہ میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ ان اوصاف کے ذریعے ایک جانب انسان کی بعض حیوانی جنتوں کو بھرپور تسلیم حاصل ہو جاتی ہے تو دوسری جانب ایک مسلسل مقابلے اور مسابقت کا بازار گرم رہتا ہے جس کے باعث معاشری میدان میں تیز رفتاری اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر نوع کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ چار بنیادی اوصاف حسب ذیل ہیں:

- ۱) جملہ عملی اور قانونی تقاضوں کے اعتبار سے ذاتی اور خصی ملکیت (Private ownership) کا اثبات، جو صرف اشیائے صرف یعنی استعمال کی چیزوں ہی پر نہیں، جملہ ذرائع پیداوار جیسے کھبیت، دکان اور کارخانہ پر بھی حاوی ہے۔
- ۲) ذاتی منفعت اور شخصی مفاد کے باعث اضافی محنت و مشقت اور زیادہ جان مار کر کام کرنے کا جذبہ یعنی ذاتی حوصلہ مندی (Personal Incentive)، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس پر مستزاد کھلا مقابلہ اور آزادانہ مسابقت (Open competition) جس سے فتح کی شرح خود بخود کم ہو جاتی ہے اور صارفین کو فائدہ پہنچتا ہے۔
- ۳) اشیاء کی قیتوں کے تعین میں کسی مصنوعی کنٹرول کی بجائے طلب (Demand) اور رسد (Supply) کے عوامل کا آزادانہ بروئے کار آتا، یعنی "منڈنی کی معیشت" (Market Economy) کا اصول!

۴) اسی طرح آجری اور مستاز جری یعنی کاربنوں کی مزدوری اور ملازمت کے معاملات میں بھی مصنوعی پابندیوں اور قدغنوں سے اجتناب۔ اور ملازم رکھنے والوں (Employers) کے لئے "رکھنے یا قارغ کر دینے" کی کھلی آزادی یعنی "Hire and Fire" کا آزادانہ اختیار (بشرطیکہ اس کے ساتھ "بیروزگار" لوگوں

کے لئے ریاستی کفالت کی ضمانت موجود ہو!

جیسے کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے، ان چاروں چیزوں کا نہایت گہرا اتعلق انسان کی حیوانی جبلوں کے ساتھ ہے اور یہ انسانی سرشت کے ساتھ کامل مطابقت رکھتی ہیں۔ چنانچہ ان ہی کو نظر انداز کر کے کیونزم نے گویا اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودی ہے۔ اور ان ہی کے باعث مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کو وہ فتح حاصل ہوئی ہے جس پر وہ بظیں بجا رہا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بعض دوسرے اعتبارات سے مغرب کی سرمایہ دارانہ معيشت نہایت ظالمانہ اور حد درجہ استھانی مزاج کی حاصل ہے۔ چنانچہ کیونزم کا ظہور بذات خود سرمایہ دارانہ نظام کے اسی ظلم اور استھان کے خلاف "رُد عمل" کی حیثیت رکھتا تھا جو "انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات!" کے مصدقہ رُد عمل کی طبی و فطری انتہا پسندی کی بنا پر مغلست کھا گیا۔ اس لئے کہ اس نے اپنی اس انتہا پسندی کے باعث انسان کی حیوانی جبلوں کو نظر انداز کر دیا۔

بہر حال اسلام کے قانونی نظام معيشت میں یہ چاروں اصول بتمام و کمال موجود ہیں جن کی بناء پر اسے مغرب کی سرمایہ دارانہ معيشت کے ساتھ ایک گونہ ممائت حاصل ہے۔

اب ہماری اصل گفتگو تو شریعت اسلامی کے ان احکام اور اقدامات کے بارے میں ہو گی جن کی بناء پر ہم اسلام کے قانونی نظام معيشت کو "مدد و داور مقید" سرمایہ دارانہ معيشت قرار دیتے ہیں۔ اور جن کا اصل مصرف اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ معيشت کے میدان میں "سرمایہ کاری" کی فضائے تو بھر پور طور پر برقرار رہے لیکن "سرمایہ" استھان کا آلنہ بن جائے اور "سرمایہ داری" آکاس نیل کی صورت اختیار کر کے پوری معيشت کا خون نہ چوں لے لیکن مناسب ہے کہ پہلے اس دوسرے پہلو پر غور کر لیا جائے جو بنیادی طور پر تو اسلام کے قانونی نظام معيشت اور مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام میں قدیم شتر کے طور پر موجود ہے، تاہم متعدد اعتبارات سے ان کے ماہین "چہ نسبت خاک رابا عالم پاک" والا معاملہ ہے اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا داخلی انضباط۔

اس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ جہاں بھی شخصی ملکیت، ذاتی حوصلہ مندی اور آزادی نہ سابقتوں کا معاملہ ہو گا، لوگوں کے مابین ذہانت و صلاحیت اور محنت و مشقت کے طبعی فرق و تفاوت کے باعث معاشری اوقیانوس پیدا ہو کر رہے گی۔ جسے ایک حد کے اندر اندر رکھنا معاشرے کی مجموعی صحت اور زندگی کے لئے لازمی ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ خلیج زیادہ بڑھ جائے تو معاشرے میں ”متوفین“ یعنی Haves اور ”محرومین“ یعنی Have-nots کے طبقات پیدا ہو جائیں گے جو طبقاتی تکشیف کا باعث بنیں گے اور اس سے معاشرہ تکست و ریخت کا شکار ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی ضرورت کے تحت مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے کہیں ”بے روزگاری الاڈنس“ کے نام سے (جیسے برطانیہ میں ہے) اور کہیں ”ولیفیر“ کے نام سے (جیسے امریکہ اور بعض یورپی ممالک میں ہے) سرمایہ دارانہ نظام کے ”اندرونی انضباط“ کی کوشش کی ہے جس کی سطح کے اعتبار سے اس اصول کے تحت کہ ”شیطان کو بھی اس کا جائز حق ضرور دیا جائے“ یہ تعلیم کیا جانا چاہئے کہ بعض یورپی ممالک جیسے سویٹن، ناروے اور ڈنمارک ایک بار تو ناقابل یقین بلندی کی حدود تک پہنچ گئے تھے تاہم چونکہ یہ معاملہ غیر فطری اور غیر طبی تھا لہذا اب کسی قدر نیچے اترنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

شریعتِ اسلامی نے یہی ضرورت زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے پوری کی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا نہایت حکیمانہ قول ہے کہ (فَوُحَدْ مِنْ أَغْيَانَاءِ هُمْ وَ تُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِ هُمْ) (صحیح بخاری، عن ابن عباس) یعنی ”وہ مسلمانوں کے مالدار لوگوں سے وصول کی جاتی ہے اور غرباً، میں تقسیم کر دی جاتی ہے!“ اور اس سے نہ صرف یہ کہ آزاد میشت کے ”داخلی انضباط“ کا وہ مقصد تمام و مکال حاصل ہو جاتا ہے جس کی وضاحت اوپر کی گئی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست فی الحقيقة ایک ولیفیر شیٹ کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو ”کفالات عامہ“ کی ذمہ داری جس حد تک قبول کرتی ہے اس کا کسی قدر اندازہ حضرت عمرؓ کے اس قول سے کیا جاسکتا ہے کہ ”اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتابھی بھوکار گیا تو قیامت کے روز عزم زمہ دار ہو گا۔“

زکوٰۃ کے نظام کی دوسری خصوصیت جو اسے مغرب کے ویفیر نظام سے مشابہ کرتی ہے یہ کہ اصولی اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی دوسرے صدقاتِ نافلہ کے بر عکس افراد کی صوابدید پر نہیں چھوڑی گئی بلکہ یہ ایک خالص ریاستی معاملہ ہے۔ لہذا یہ صاحب نصاب لوگوں سے جبراً اور پورے حساب کتاب کے ساتھ وصول کی جاتی ہے۔ تاہم یہ معاملہ مصلحتِ عامہ کے پیش نظر صرف ”اموال ظاہرہ“ یعنی اموال تجارت وغیرہ کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے اور ”اموال باطنہ“ جیسے وہ زیورات یا نقدی وغیرہ جو گھروں میں رکھی گئی ہو ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو لوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ چاہیں تو حکومت کے حوالے کر دیں اور چاہیں تو خود ادا کر دیں (چنانچہ ایسے ہی اموال کی زکوٰۃ تھی جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ڈوِرِ خلافت راشدہ میں لوگ اسے لے کر پھر اکرتے تھے اور اس کا قبول کرنے والا نہیں ملتا تھا!)

بہرحال ان دو جزوی اور سطحی مشابہتوں کے علاوہ شریعتِ اسلامی کا نظام زکوٰۃ مغرب کے ویفیر کے نظام سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے، جس کے چند پہلو حسب ذیل ہیں:

(i) زکوٰۃ عبادت ہے تیکیں نہیں، لہذا جس شخص کے دل میں ذرا بھی ایمان ہو گا وہ زکوٰۃ پوری پوری ادا کرے گا جبکہ تیکیں سے بچنے کی کوشش ایک قاعدہ کلیہ اور متفق علیہ معاملہ ہے۔ چنانچہ بالکل نماز کی طرح جس کی فرضیت قرآن کی جانب سے ہوئی اور اس کے اوقات و رکعات کا نظام نبی اکرم ﷺ نے عطا فرمایا، زکوٰۃ کی بھی فرضیت قرآن کے ذریعے ہوئی اور اس کے نصاب اور شرح کا نظام آنحضرت ﷺ نے تعین فرمایا۔ اور جو لوگ اس نظام میں رد و بدل کے جواز کے قائل ہیں وہ اپنی تائجی میں زکوٰۃ کو ”عبادت“ کی بجائے ”تیکیں“ کی صورت دے کر اس کی اصل روح کو ختم کر دینے کے درپے ہیں۔

(ii) نظام زکوٰۃ کے اعتبار سے ”اغنیاء“ اور ”فقراء“ کا تعین صرف عرفِ عام میں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ مالدار وہی سمجھا جائے جو لکھ پتی یا کروڑ پتی ہو اور فقیر وہی قرار دیا

جائے جسے فاقہ آرپے ہوں یا جو بھیک مانگتا پھر رہا ہو بلکہ "نصاب" کی ایک لائن کھینچ دی گئی ہے کہ جو شخص بھی اس سے اوپر ہے وہ "غیری" یعنی زکوٰۃ کا داکنندہ (Recipient) ہے اور جو اس سے نیچے ہے وہ زکوٰۃ کا وصول کنندہ (Donor) ہے۔ چنانچہ اس اصول کی بنیاد پر ایک مکمل سوچل انشورنس کا نظام قائم کیا جاسکتا ہے جس سے معاشرے میں Haves - nots اور Have - nots کے مابین ایک حسین توازن قائم ہو جائے۔

iii) مغربی ممالک میں سوچل انشورنس کا اصل نظام لوگوں کی اپنی ادائیگی یعنی Contribution کی بنیاد پر قائم ہے، ورنہ خالص اور اصل ویلفیر کی سطح تو بہت ہی کم یعنی صرف Subsistence Level پر ہے، جبکہ زکوٰۃ کے نظام میں اس کے حق داروں اور وصول کنندگان کی جانب سے کسی Contribution کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہر وہ شخص اس کا حق دار ہے جس کی اپنی مالی حیثیت کسی بھی سبب سے "نصاب" سے مکتر ہو۔

iv) تاہم شریعت اسلامی نے زکوٰۃ کے نظام میں ایک حسین توازن ایسے پیدا کر دیا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کو "اوسمائخ النّاسِ" یعنی لوگوں کا میل کچیل قرار دے کر نہ صرف لوگوں کو ترغیب دی ہے بلکہ ان کی غیرت کو جھنجورہ اے ہے کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے معاش حاصل کر کے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو اور لوگوں کے میل کچیل سے اپنے پیٹ مت بھرو۔

چنانچہ اسی معاملے میں مزید زور پیدا کرنے کے لئے نبی اکرم ﷺ نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لئے زکوٰۃ اور صدقات کو حرام قرار دے دیا۔ تاہم عام لوگوں کے اعتبار سے یہ بھی صرف ایک اخلاقی تعلیم ہے، قانون نہیں۔ البتہ اس سے اس اندر یہی کاسہ باب ہو جاتا ہے جس کے باعث سویڈن جیسے ملکوں کو ویلفیر کی سطح کو نیچے لاٹا پڑ رہا ہے، یعنی جب بغیر محنت کے بھی گزر بسر ہو جائے تو "زندگی یوں بھی گزری جاتی، کیوں ترا را گھندر یاد آیا" کے مصادق خواہ خواہ زیادہ محنت اور مشقت کیوں

برداشت کی جائے۔ کیوں نہ ویفیر کو شیر ما در کی طرح ہضم کیا جائے۔
 قصہ مختصر زکوٰۃ کا نظام اسلام کے قانونی نظام معیشت کا اہم ستون ہے جس سے
 اس کی ”آزاد معیشت“ سے پیدا شدہ معاشی ناہمواری کا ”داخلی انتظام و انضباط“
 بطریق احسن ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ صدیوں سے تو مسلمانوں نے اسے
 ذاتی خیرات کا معاملہ بنار کھاتا ہے۔ اپنے دور حکومت میں جزل ضیاء الحق مرحوم نے اسے
 بڑی آن بان اور شان کے ساتھ نافذ کیا تو اس طور سے کہ بس ایک منظم بھکاری پن
 چند!“ کے مصادق زکوٰۃ کے نظام ہی کو بدنام کر کے رکھ دیا۔

اب ان شاء اللہ آئندہ صفحات میں شریعت اسلامی کے ان احکام اور اقدامات پر
 گفتگو ہو گی جن کے ذریعے آزاد معیشت کے اسلامی نظام میں ”سرمایہ کاری“ کی فضا
 کو بھر پور طور پر برقرار رکھتے ہوئے ”سرمایہ داری“ کی لعنت کو وجود میں آنے سے
 روکا گیا ہے، جن میں سرفہrst سود کی حرمت ہے۔

سود اور جوئے کی حرمت کی حکمت

الحمد للہ کہ اس سے قبل حسب ذیل امور کی کسی قدر وضاحت ہو چکی ہے کہ:

۱) ایمان اور احسان کی سطح پر اسلام کی تعلیمات کا نقطہ عروج "اختیاری فقر" ہے جو گویا روحانی سو شلزم کی بلند ترین صورت ہے۔

۲) عمومی اور قانونی سطح پر اسلام کا معاشری نظام مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام سے اس بنا پر بھی مشابہ ہے کہ اس میں نجی ملکیت، انفرادی حوصلہ مندی، آزادانہ مسابقت، منڈی کی معيشت اور طازم رکھنے اور فارغ کردنے کے اختیار کے وہ جملہ اصول موجود ہیں جن کو رد یا نظر انداز کرنے کی بنا پر کیونزم کی موت واقع ہوئی اور اس کے مقابلے میں مغرب کے اس سرمایہ دارانہ نظام کو فتح حاصل ہوئی جس نے ان اصولوں کو اختیار کیا۔ اگرچہ وہ اپنی جگہ ایک نہایت ظالمانہ اور استھانی نظام ہے۔

۳) مزید برآں یہ مشابہت اس پہلو سے بھی ہے کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے اندر ورنی اور داخلی انضباط کی جس ضرورت کو بیروزگاری الاؤنس یا لیفیسر یا اجتماعی انشورنس کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی اسے اسلام نے اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع اور زیادہ متوازن اور قابل عمل صورت میں زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے باحسن وجود پورا کر دیا۔

اب آئیے کہ ہدایت خداوندی اور آسمانی شریعتوں یعنی شریعت موسویٰ اور شریعت محمدیٰ کے ان احکام پر غور کریں جن کے ذریعے خالص عقل انسانی کے اعتبار سے یہ نامکن الحصول مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ "سرمایہ کاری" کی فضا کو بھر پور طور پر برقرار رکھنے کے باوجود "سرمایہ داری" کی لعنت پیدا نہ ہونے پائے۔ یعنی دولت کا ارتکاز ایک محدود حلقة میں نہ ہو بلکہ وہ پورے معاشرے میں توازن اور ہمواری کے

ساتھ گردوش کرے۔

قرآن حکیم نے اس بنیادی مقصد کو سورۃ الحشر کی ساتویں آیت کے ان مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ﴿كُنْ لَيْكُونْ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ یعنی ”تاکہ وہ (سرمایہ) تمہارے امیر لوگوں ہی کے مابین گردش میں نہ رہے۔“ اس عظیم مقصد کے حصول کے لئے خالص عقل انسانی کی رسائی کی آخری منزل یا ”معراج“ یقیناً مارکس کا فلسفہ اور کیونزم کا نظام ہی تھا لیکن وہ حقائق و واقعات کی تجربہ گاہ میں ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کا نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ۔

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور
چماغ راہ ہے منزل نہیں ہے!

عقل کی کوتا ہی اور درماندگی کو تسلیم کر لیا جائے اور ہدایت آسمانی کی جانب رجوع کیا جائے۔ آسمانی شریعتوں نے اس مقصد عظیم کو چند مالی معاملات کو حرام اور منوع قرار دے کر حاصل کیا ہے جن میں سے Master-Stroke کی حیثیت سود اور جوئے کی حرمت کو حاصل ہے۔ چنانچہ ان دونوں ہی کو قرآن حکیم نے شیطان لعین کی جانب منسوب کیا ہے۔ جیسے کہ سود کے بارے میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۷۵ میں فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَطَّهُ الشَّيْطَنُ مِنَ النَّاسِ﴾

”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے روز) نہیں اٹھیں گے مگر ان لوگوں کے مانند جنمیں شیطان نے اپنی چھوٹ کے ذریعے پاگل بنا دیا ہو!“ اور سورۃ المائدہ کی آیات ۹۰ اور ۹۱ میں شراب وغیرہ کے ساتھ ساتھ جوئے کو بھی ان ”ناپاک شیطانی کاموں“ ﴿رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ﴾ میں شمار کیا گیا ہے جن کے ذریعے شیطان انسانوں میں ”عداوت اور بغض“ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اگرچہ ایک بندہ مؤمن کے لئے تohlیت اور حرمت کے معاملے میں صرف اللہ

اور رسول ﷺ کا حکم ہی آخری، قطعی اور حقیقی بات ہے جس پر مستزاد کسی عقلی اور منطقی دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے یہ اعتراض اور دو کیا کر ﴿إِنَّمَا الْبَيْنُ مِثْلُ الرِّبْوَا﴾ (البقرة: ۲۷۶) ”بین بھی تو ربا کے مثل ہی ہے“ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بین اور ربا کے مابین فرق و تفاوت کو کسی عقلی اور منطقی دلیل کے ذریعے واضح نہیں فرمایا بلکہ جراحت اور ملامت کے انداز میں فرمایا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْنَ وَحَرَمَ الرِّبْوَا طَهُ﴾ ”حالانکہ اللہ نے بین کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام!“ (اگرچہ اس کا ایک لطیف سبب یہ بھی ہے کہ سود کے گھناؤ نے پن کو حرم تر ربا کے آخری حکم کے نزول سے لگ بھگ پندرہ سال قبل سورۃ الروم کی ایک آیت میں ”عاقلاں را اشارہ کافی است!“ کے مطابق لطیف ترین اور مختصر ترین انداز میں واضح کر دیا گیا تھا، جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا!) تاہم چونکہ عہد حاضر میں عام طور پر لوگ عقلیت پسند سے بھی آگے بڑھ کر ”عقلیت پرست“ بن گئے ہیں، لہذا سود اور جوئے کی حرمت کی حکمت و عملت کی کسی قدر عقلی وضاحت مناسب ہے۔

اس مسئلے میں یہ خالص فلسفیانہ بحث کہ اصل عامل پیداوار محنت ہے یا سرمایہ، جہاں ایک روزنا مے کے کالموں کی حدود سے متجاوز ہے وہاں اٹھا پہلے تھا یا مرغی کے سوال کے مانند لا یعنی اور لا حاصل بھی ہے۔ اسی طرح کسی منفعت بخش پیداواری عمل میں کس قدر حصہ سرمائے کا ہے اور کتنا محنت کا اس کا یعنی اور حقیقی تجویہ بھی قطعاً ناممکن ہے۔ اصل سئے کے فہم کے لئے اس سادہ ترین بنیادی حقیقت کو سامنے رکھ لینا کافی ہے کہ ہر قابل لحاظ پیداواری عمل میں دو عوامل تو اسai اور بنیادی طور پر لازماً شامل ہوتے ہیں، یعنی محنت اور سرمایہ اور ایک تیرا عامل بھی خواہ ٹانوی درجہ ہی میں سکی بہر حال کسی حد تک ضرور موجود ہوتا ہے، یعنی ”موقع“ یا چانس۔ اور مالی معاملات میں شریعت الہی میں حلنت اور حرمت کا اصل الاصول یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ زور بھی انسانی محنت پر دیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ تحفظ بھی اسی کو فراہم کیا گیا ہے جبکہ سرمایہ کو بروئے کار آنے کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام

کے مُقرِّنین فی الاَصْفَادِ جنات کے ماندگی قدر پابند سلاسل کر کے تاکہ یہ پیداواری عمل میں مناسب حصہ تو ادا کرے، لیکن نہ محنت کا احتصال کر سکنے نہ محنت کے بغیر محض موقع یا چانس کے رسک کے ذریعے افرائش و افزودگی حاصل کرنے کی کوشش کر سکے اس لئے کہ انہی دو ذرائع کی بنا پر سرمایہ پوری معيشت پر آ کاس بدل کی طرح مسلط ہو جاتا ہے۔

ان میں سے جہاں تک موخر الذکر معاملے کا تعلق ہے اس کی حکمت و علت تو اظہر من الفتن ہے، یعنی سرمایہ جب بغیر محنت کے محض موقع اور چانس کے رسک یعنی ”داؤ“ کے ذریعے کمائی کی کوشش کرتا ہے تو اس سے زیریں اور انفرادی سطح پر تو محنت و مشقت بے فرار اور حقائق نے گریز کا وہ رجحان پیدا ہوتا ہے جو

”ے سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو

اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہئے“

کے صدق انشاء اور چیزوں کے استعمال کی اصل غرض و غایت ہے۔ (یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جوئے کو سورة البقرۃ کی آیت ۲۱۹ اور سورة المائدۃ کی آیات ۹۰، ۹۱ میں ”خمر“، یعنی شراب کے ساتھ بریکٹ کیا ہے!) اور معيشت کی اجتماعی اور بالائی سطح پر اشیاء کی صرف کی قیمتیوں میں بے جواز اضافے اور ان میں اچانک کی بیشی کے ذریعے منڈی کے عدم احکام کے مہلک متانگ پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ایک جانب جوئے سے اوز لاٹڑی کے قبل کی جملہ چیزوں کو حرام مطلق قرار دیا اور دوسرا جانب مستقبل کے سودوں کے ضمن میں سخت پابندیاں حائد کر دیں۔ چنانچہ بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کی بہترین اور پسندیدہ صورت تو یہ قرار وی کہ صرف حاضر اور موجود مال کا سودا ہوتا کہ مبادله دست بدست ہو جائے، لیکن اگر کسی سماجی ضرورت کے تحت کوئی مستقبل کا سودا کیا جائے تو کل طبق شدہ قیمت کا کوئی حصہ یعنی دس یا بیس فیصد نہیں بلکہ کل کی کل قیمت فوری طور پر ادا کر دی جائے تاکہ سرمایہ کو اپنی اصل قدر اور مالیت سے زیادہ کا کاروبار کرنے یعنی Over trading کا موقع نہیں سکے (اسے فتاویٰ اسلامی

میں ”بیعِ سلم“ کہتے ہیں)۔

البتہ سود کی حرمت کا معاملہ ذرا زیادہ قابل غور ہے۔ اس کی حکمت و علت کو سورۃ الرؤم کی آیت ۳۹ میں حد درجہ اختصار اور غایت درجہ فصاحت و بلاعث کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سود یا ربا یہ ہے کہ کسی شخص کا سرمایہ کسی دوسرے شخص کے مال میں نشوونما پائے اور افزائش و افزودگی حاصل کرے۔ ﴿لَيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾۔ اور یقیناً یہی سبب ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے سود کو ”زناء“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لئے کہ زنا کی صورت میں بھی مرد کا نطفہ اپنی منکوح بیوی کی بجائے ناجائز طور پر کسی دوسری عورت کے رحم میں پرورش پاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایک شریف انسان زنا کا تو لفظ بھی زبان پرلانے سے پچھاتا ہے جبکہ سود کو عام طور پر ماں کے دودھ کے مانند مباح بنا لیا گیا ہے، حالانکہ واقعی یہ ہے کہ زنا کے بُرے اثرات زیادہ تر انفرادی یا معاشرے کی زبریں سُلٹ تک محدود رہتے ہیں جبکہ سود کے ذریعے ”سرمایہ داری“ کی لعنت پورے معاشرے پر آ کاس تبلیغی طرح چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سود کو زنا سے سیکڑوں گناہ زیادہ قیچ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((الرَّبِّيَا سَمَعُونَ جُزُءَ أَنْسَرِهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّةً)) (عن ابی هريرة)

”ربا کے گناہ کے ستر حصے میں تین میں سے سب سے چھوٹا اور تغیرتہ اس کے

ساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے!“

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سود پر اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی جانب سے اعلان جنگ کی بایں الفاظ و عید سنائی ہے:

((فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) (البقرہ: ۲۷۹)

”اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔“

اس معاطلے کو سادہ ترین انداز میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے

ذاتی سرمائے سے کار و بار کر رہا ہو اور اس میں محنت بھی یا صرف اس کی اپنی ہو یا

دوسرے انسانوں سے میعنی روزانہ اجرت یا مامہنہ تنخواہ کے عوض تو اس معاملے میں نہ کوئی معاشی یا مالیاتی پیچیدگی ہے نہ شرعی قدغن۔ اسی طرح اگر بہت سے لوگ اپنا سرمایہ بھی جمع کر لیں اور سب مل جل کر کام بھی کریں اور نفع و نقصان میں شرکیک ہو جائیں تو یہ ”شرکت“ بھی ہر اعتبار سے حلال و طیب ہے اور اس کی اساس پر بڑے سے بڑے پیمانے پر تجارت اور صنعت کا کام کیا جاسکتا ہے۔ اصل مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں محنت کسی اور کی ہو اور سرمایہ کسی اور کا۔ چنانچہ اس معاملے میں اکبر اللہ آبادی کے اس شعر کے مصدقہ کر۔

جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں بیج پڑتے ہیں
شریعت، عقین، منطق سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں

ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اپنی ابتدائی صورت میں تو بڑی ”معصوم“ نظر آتی ہیں لیکن ان کے نتیجے میں معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے اور ظلم جبر اور احتصال کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔

ان پیچیدگیوں کے ضمن میں شریعت اسلامی کا اصل الاصول تو یہ ہے کہ اس کے زدیک سرمایہ کو As such یعنی محض سرمائے کی حیثیت سے ”کماہ“ یعنی Earning Agent تسلیم کیا جانا ”نابند“ ہے۔ چنانچہ اس کی ایک انتہائی صورت کو تو اس نے سود یا ربا قرار دے کر صرف حرام مطلق ہی نہیں بلکہ اتنا حرام قرار دیا ہے کہ سوائے شرک جلی کے کمی اور عمل اتنا حرام نہیں ہے۔ اور ایک صورت کو سماجی ضرورت کے پیش نظر جائز ہے اور یا ہے تو اس میں سرمائے کے لئے رسک کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ محض منفعت کا طالب سرمایہ بھی اس کی جانب رخ ہی نہیں کرے گا۔

چنانچہ سود یا ربا تو یہ ہے کہ سرمایہ محض سرمائے کی حیثیت میں منفعت کا طالب ہو نقصان کا رسک بالکل قبول نہ کرے اور منفعت بھی ایک میعنی شرح پر طلب کرے۔ یہ معاملہ خواہ بخی ضرورتوں کے سلسلے میں یعنی Usury کی صورت میں ہو، خواہ کسی تجارتی یا صنعتی معاملے میں یعنی Commercial interest کی صورت میں ہو، یکساں

طور پر حرام مطلق، اپنی شناخت اور خباثت میں ماں کے ساتھ بدکاری سے بیکھڑوں گنا زیادہ اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ جگ کے مترادف ہے! اس لئے کہ اس صورت میں سرمایہ دار کا سرماں یہ دوسرے لوگوں کے مال میں شامل ہو کر ان کی محنت اور مشقت کے طفیل افرائش اور افسودگی حاصل کرتا ہے اور اس طرح کو یا پھر بغیر محنت اور نقصان کے رسم کے محض پیسے کی حیثیت سے پیسے کو کھینچتا چلا جاتا ہے جس سے ارکاڑ زر کی صورت پیدا ہوتی ہے اور دولت اور سرمایہ چند ہاتھوں میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اجتماعی سطح پر تو معاشرے میں محنت اور اخوت کی بجائے فقرت و عداوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور تعاون اور تعاون کی بجائے کشاکش اور تصادم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور انفرادی اعتبار سے سود خور انسان درندوں اور خون چو سنے والی چمگادڑوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال۔

از ربا آخر چہ می زاید؟ فتن!

کس نداند لذت قرض حسن

از ربا جاں تیرہ دل چوں خشت و سگ

آدمی درندہ بے دنمان و چمگ

یعنی "سود جیسی اُم الخیاثت کے بطن سے آخر قتوں کے سوا اور کیا چیز جنم لے سکتی ہے! افسوس کر لوگوں کو قریبی حست (یعنی ایسا قرض جس میں صرف اصل زرعی کی واحدی کا وعدہ ہو، بغیر کسی اضافے کے!) کی لذت کا احساس و ادراک حاصل نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سود سے انسان کا باطن تاریک اور دل ایسٹ پھر کے ماند سخت ہو جاتا ہے اور انسان درندوں کی طرح کے چباؤں اور دانتوں کے بغیر فی الواقع درندہ بن جاتا ہے"۔

سرماں یہ کے محض سرمائے کی حیثیت سے نفع کے سختق ہونے کی جس صورت کو شریعت اسلامی نے بدرجہ آخر اور کراہت کے ساتھ (اس کی وضاحت بعد میں آئے گی) جائز قرار دیا ہے وہ "مضار بست" کا معاملہ ہے؛ جس میں سرمایہ کی اور (رب المال) کا ہوتا ہے اور محنت کوئی اور (مضارب عالی) کرتا ہے۔ اس صورت میں اگر

نفع ہو تو وہ ان دونوں کے مابین پہلے سے طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس طرح گویا اس معاملے میں سرمایہ کو محض سرمائے کی حیثیت سے ”کماو“ (Earning agent) تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ Master stroke بھی صرف حکمت الہی اور حکمتِ نبویؐ کے لئے ممکن تھا کہ اس ”شر“ کی تلافی اس طرح کر دی گئی کہ اگر نقصان ہو جائے تو وہ سارے کام اربال یعنی سرمایہ دار برداشت کرے گا، مضارب عامل پر کسی قسم کے نقصان کی کوئی ذمہ داری یا تاو ان عائد نہیں کیا جائے گا! لہذا سود خورانہ ذہنیت کے حامل شاید اس صورت کی جانب کبھی رجوع ہی نہیں کر سکتے بلکہ یہ صورت صرف ایسے لوگ ہی اختیار کر سکتے ہیں جن میں ذاتی جلب منفعت کے ساتھ ساتھ اور کم از کم اس کے مساوی اور برابر اپنے کسی بھائی کی نہ دکا جذبہ بھی موجود ہو۔

مضاربہت کے اصول پر کوئی شخص اپنا سرمایہ کسی دوسرے شخص (عامل) کے حوالے ظاہر ہے کہ صرف دو صورتوں میں کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ خود کام کرنے سے مغذور ہوا اور دوسرے یہ کہ وہ خود کسی اور کام جیسے ملازمت وغیرہ میں مشغول و مصروف ہوا اور اس کے پاس ”بچت“ کی صورت میں کچھ فاضل سرمایہ جمع ہو جائے۔ پہلی صورت میں ایک غیور اور خود دار شخص لازماً یہ چاہے گا کہ بجائے اس کے کہ جو تھوڑی بہت پونچی اس کے پاس ہوا سے کھا کر ختم کر دے اور اس کے بعد ”یقینی“ طور پر زکوٰۃ و صدقات کے مستحق لوگوں میں شامل ہو جائے، کیوں نہ اپنی پونچی کو مضاربہت کے اصول پر کسی قابل اعتماد شخص یا ادارے کے حوالے کر دے تاکہ اللہ کو منظور ہو تو اس کی گزر بمرز کو ۃ و صدقات کے بغیر ہی ہوتی رہے۔ رہی دوسری صورت تو یہ فاضل سرمایہ ہی اصل میں اسلامی معاشیات کی وہ ”قدر زائد“ ہے جس کے ضمن میں اسلام کی ایمانی و احسانی اور فقہی و قانونی تعلیمات کو دیکھا کر کے دیکھا جائے تو اس کے حامل کے سامنے چار راستے کھلے ہیں:

- ۱) بلند ترین تو یہ ہے کہ اس "عفو" کو غرباء اور مسَاکین کو دے کر خود فارغ اور سرخرو ہو جائے اور اپنے لئے روحانی ترقی کا سامان فراہم کر لے۔
- ۲) اس سے کم تر درجے میں یہ کہ اسے "قرض حسن" کی صورت میں اپنے کسی ایسے بھائی کو دے دے جو کام تو کر سکتا ہو لیکن سرمایہ سے محروم ہوتا کہ وہ اس کے ذریعے اپنی معاشی گاڑی کو شارٹ کر کے اس کی اصل رقم بغیر کسی اضافے کے اسے لوٹا دے (یا اگر کوئی اضافہ کرے تو خالص اختیاری طور پر اپنی آزاد مرضی، بلکہ خواہش سے، یعنی بطور بدیہی)
- ۳) اس سے بھی فروت درجہ یہ ہے کہ اپنی رقم مضاربہت کے اصول پر کسی عامل کے حوالے کر دے، نقصان ہو تو پورا خود برداشت کرے اور اگر نفع ہو تو اس میں سے ایک حصہ وصول کر لے۔ یہ جائز کی آخري حد ہے جو اور پر کی دونوں پسندیدہ اور مطلوب سطحوں سے فروت ہونے کے باعث ان کے مقابلے میں "مکروہ" شمار ہو گی۔
- ۴) اور آخری اور بدترین اور اسفل ترین یہ ہے کہ یہ سرمایہ بغیر نقصان کا رسک لئے نفع کی معین شرح پر دوسروں کے حوالے کر دیا جائے یہ سود اور ربا ہے ماں کے ساتھ بدکاری سے سینکڑوں گناز یادہ اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف کھلا اعلان جنگ!